

Islaam

Jubbande setta ko faati e Islaam, hono mbo
ardi e Quraana e Sunna Annabiyanke



نبذة موجزة عن الإسلام (نسخة مشتملة على الأدلة)



بيان الإسلام
Bayan AL-Islam



Islaam

Jubbande seeda ko faati e Islaam,hono no dur ardi e ALQuraana e Sunna Annabiyanke

Deftere hummunde soomnde anndingol jumangol ko faati e Islaam, honde feññina ko buri himmude e asli hembo e tinndinooje e njoon ndam hembo,tawa ko e tuuknaade e Alquraana e sunna annabiyanke,nde huccinaa ko e denndaangal hellifaabe juulbe e be ngonaa juulbe tawa ko demde mum en,e kala yonto e nokku, won dude e seertude ngonkaaji e alhaaluuji.

Ko nde deftere soomnde dallillaaji ummoraade e Alquraana e sunna Annabiyanke o.

شركاء التنفيذ:



المحتوى الإسلامي



رواد الترجمة



جمعية الربوة



دار الإسلام

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع
الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.



Telephone: +966114454900



ceo@rabwah.sa



P.O.BOX: 29465



RIYADH: 11557



www.islamhouse.com

1. Islaam ko bataake Alla faade e denndaanga yimbe e jinneeji fof,ko kamba woni nelal Aliyankeewal genawal,timminngal nele Alliyankooje:

Islaam ko nelal Alla faade e Aade en fof e jinneeji, Alla teddufo o wi*i:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 28]

{Min nuliraani ma si wonah e denndaangal aade en fof,haa ngonaa beltnoowo e jertinoowo,Kono ko furi heewde e yimbe hee ngnddah.} [Saba*i 28]

Alla daali:

﴿قُلْ يَتَّيِّهُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا...﴾ [الأعراف: 158]

{wii eehey yimbe miin komi nelaado e mon tigi,onon fof} [Aaraaf: 158]

Alla daali:

﴿يَتَّيِّهُهَا النَّاسُ فَذَجَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمَنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 170]

{Eehey mon yimbe Nelaado addanii mon goongo ummorde e Joom mon, ndeen noon ngondine ko dum furi wonde jam mon, si on njeddii ngannde na woodani Alla ko woni e kammuuji e leydi, Alla woniino O seeraani wonde gannda ñeeñudo.} [Annisaa*i: 170]

Islaam woni nelal Alliyankeewal luttungal, ko kanngal woni timmorgal nule Joomiraado, Alla Toowdo wi*i:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 40]

{Muhammadu wonaani baabiraado hay gooto e mon, ko woni ko O Nelaado Alla ko O tiimorde Annabaabe, Alla wonii te O seeraani wonde gannda kala huunde.} [Al Ahjaab : 40]

2- Islaam wonah diine leñol maa yimbe heeriibe, kono kombo diine Alla wonande yimbe fof:

Islaam wonah diine leñol maa yimbe heeriibe, kono kombo diine wonande yimbe fof, yamiroore adiinde ummornde e Alquraana tedduda ko konngol Alla toowdo O:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]

{Eehey mon yimbe ndewee Joom mon takdo on, e takdo adiiibe mon, ngam kulon simoore} [Bagara : 21]

Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]

{Eehey mon yimbe kulee Joom mon Oon takdo mon ummaade e fittaandu wooturu,O tagi ummaade e hendu dewel e gorel O saakti ummorde e mayru worbe heewbe e rewbe} [Annisaa:1]

Ummaade e Ibnu Umar yo weluyo Alla won e mum en wonde Nelaado Alla yo jam e kisal won e mum yeewtinii yimbe be ñande fathu Makka, o wi*i:

(Eehey mon yimbe Alla ittanii on wasaade majjiyankooobe e mawnakiranaade baabiraabe mum en yimbe ko worbe dido:diggudo teddufo to Alla,e candalin do kiitaado koydo to Alla,yimbe ko bibbe Aadama,te Alla tagirii Aadama ko leydi,Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]

{Eehey mon yimbe mi tagii mon yimbe e jinneeji mi wadii on kille e leyYi ngam nganndandiron, pellet buri teddude e mon to Alla ko burdo hulde Alla, pellet Alla ko ganndo tigi ko kumpatiido..} [Hujuraati: 13]

Ko Tirmidhi fillii mo

A tawatah e jamirooje ALQuraano teddufo o,wolla jamirooje Nelaado teddufo O sariya keertinaado yimbe e hinnde sabu ndaarde guri leñol mum

en.

3. Islaam woni nelal Alliyankeewal gar ngal ngam timmitinde nule Annabaabe e Nelaabe adiiɓe be yo jam e kisal won e mum en faade e yimbe mabbe.

Islaam woni nelal Alliyankeewal gar ngal ngam timmitinde nule Annabaabe e Nelaabe adiiɓe be yo jam e kisal won e mum en faade e yimbe mabbe, Alla daali:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۗ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ﴾ [النساء: 163]

{Min mbahyiima faade e ma hono no min mbahyi- rino faade e Nuuhu e Annabaabe caggal mum, min mbahyiima faade e Ibraahiima e Ismaa*iila e Yaaquuba e Asbaati e Iisa e Ayyuuba e Yuunus e Haaruuna e Suleyma Min totti Daawuuda Jabuur.} [Annisaa: 163]

O diine mbo Alla wahyii faade e Nulaaɗo Muhammadu yo jam e kisal won e mum ko oon woni diine mbo Alla sariyani Annabaabe adiiɓe O wasiyiibe mbo, Alla toowɗo o O daali:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ [الشورى: 13]

{O sariyaniima on diine, ko wasayii ko Nuuhu e ko O wahyii ko faade e maa e ko O wasayii ko Ibraahiima e Muusa e iisa, ko dum woni ndarnee diine wotee ceerte heen, mawnii e sirkube he ko noddatabe ko e mum, Alla na suɓoo mbo wela refti O feewna faade e Makko oon tuuboowo.} [Assuura: 13]

O diine mbo Alla wahyii faade e Nulaaɗo men Muhammadu-yo jam e kisal won e makko-kombo goondindo defte Alliyankooje adiiɓe hono Tawreeta e Injiila ko adii dende wayletee Alla toowɗo O daali:

﴿وَأَلْزَمْنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [فاطر: 31]

{Komin mbahyii ko faade e Ma ummaraade e deftere nde, ko goonga goongindo ko adinoondeko tellaade e defte, pellet Alla ko kumpatiido ko ji*oowo} [Faatiri 31]

4. Annabaabbe be kisal woni e mum en, diine mu*en ko gooto, sariyaaji mabbe ko ceertudi.

Annabaabe be kisal woni e mum en, diine mu*en ko gooto, sariyaaji mabbe ko ceertudi Alla toowdo O daali:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]

{Min tellini e Ma deftere nde e goonga honde goongini ko adinoonde tellaade e defte, honde hiilndi e mum, ñaawir hakkunde mabbe ko Alla tellini ko wota a rew e belaafe mabbe gaa ko ari ko e Ma e goonga, gooto fof Min mbadanii mbo sariya e laawol, si Alla welanooma O waday on lenol gootol, kono tan ko haa O jariboo on ndadandire e golle moy'ye, ko faade e Alla woni ruttorde Mon onon fof, O habra mon ko wonnodon luurude ko e mum.} [Al Maa*ida: 48]

Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: Ko Miin buri haandude yimbe be e lisa biy Mariyama e nder aduna e laakara, Annabaabe ko musibbe Neeniraabe ko seertube kono diine mum en ko goota. Ko Bukhaari habri mbo 3443.

5. Islaam noddata ko-ko hono no Annabaabe:Nuuhu,Ibraahiima, Muusa,Suleyman,Daawuuda e Iisaa yo kisal won e mabbe-faade gumre wonde Alla ko takdo guurnoowo baroowo,jeydo jeyal ko O jiiloowo fiyakuuji ko Kamko woni newiido jurmotoodo O.

Islaam noddata ko-ko hono no Annabaabe:Nuuhu,Ibraahiima,Muusa, Suleyman,Dawuda Daawuuda e Iisaa yo kisal won e mabbe-faade e gumre won de Alla ko takdo guurnoowo baroowo,jeydo jeyal ko O jiloowo fiyakuuji ko Kamko woni newiido jurmotoodo O daali:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَدْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: 3]

{Eehey mon yimbe ciftere dokke Alla e dow mon,mbele na woodi takdo mo wonah Alla arsikinoowo on ummorde e kammu e leydi, dewateedo alah si wonah Alla ko honno yiiltorto don.} [Faatiri: 3]

Alla daali:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]

{ Ko hombo arsakinta on ummaade e kammu e leydi ko hombo jeyi nand'e e jii'de e hombo yaltinta ko wuuri ummaade e ko maayi,o yaltina ko maayi ummaade wuuri O yiila fiyakuuji, maa'be mbii ko Alla mate on hulatah } [yuuni 31]

Alla daali:

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: 64]

{ Ko hombo fudfata tagoore nde refti O ruttande ko hombo arsakinta mon ummorde e kammu e leydi mbela na woodi dewateedo gon dufo e Alla wii ngaddee daliilu mon si on laatiima goongube.} [Annamli : 64]

Denndaangal Annabaaḅe e Nulaaḅe yo jam e kisal won e mum en ḅe neliraa ko noddude faade e dewal Alla kanko tan Alla toowḁo O daali:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٦﴾﴾
[النحل: 36]

{ wollahi Min imminii e kala moḁte Nulaaḁo, wonnde ndewee Alla, ngodditodon bewnayḁi ḁin.Hino e maḅḅe on Mo Alla feewni, hino e maḅḅe kadi on mo majjere nden jojji e mun.Yiilee ka leydi, ndaaron ko honno battane fennooḅe ben wa'unoo. } [Annahli : 36]

Alla daali:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾﴾ [الأنبياء: 25]

{ Min nulaani ko adima hay Nulaaḁo gooto si wonah Min mbahyii e Makko won de pellet deweteedḁo alah si wonah Miin waḁḁe ndewee kam. } [Al Anbiyaa*i 25]

Alla habri gaa e Nuuhu yo O his O Daali:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾﴾ [الأعراف: 59]

{ Eehey mon yimḅe am ndewe Alla on ngalah Alla tanah makko Miin mbidḁo hulani on lepte ḅalngu manngu..} [AL Aaraaf 59]

Ibraahiima gidḁo O -yo jam e kisal won e mum- hono no Alla habriiri nih, O maaki:

﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَهُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾﴾
[العنكبوت: 16]

{ kadi Ibraahiima, nde o wi'annoo yimḅe makko ḅen:"ndewee Alla,kulon Mo; ko ḁum ḅuri moy'yannde on,si woni hidḁon anndi.} [Al ankabuut:16]

Saaliḁu -mo jam e kisal woni e mum- maaki hono no Alla habriiri e mum:

﴿وَالِىٰ ثَمُوذَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾﴾ [الأعراف: 73]

{ O wi*i onon yimbe am ndewee Alla on ngalah deweteedo siwona kamko arii e mon ko laabti ummaade e Joom mon dum ko ngeelooba njarla ko haawniinde wonan de mon aceeba hoba dura e leydi Alla he wotee memneebe bonannde lepte muusde nannga mon.} [Al Aaraaf: 73]

Su*ybu-mo jam e kisal woni e mum-maaki hono no Alla habiriri e mum:

﴿وَالِىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾﴾ [الأعراف: 85]

{ Eey mon yimbe am on ngalah deweteedo mbo wonah kamko arii e mon ko laabtii ummorde ka Joom mon timminee betu e peese wotee ustancee yimbe be gede mabbe woto on mbonnu e nder leydi he caggal dendi feewnaa ko duum buri moy'an de on si on laatiima goondin be.} [Al Aaraaf: 85]

Nde Alla adii haaldude e Muusa - yo jam e kisal won e mum- Alla ceniido O daa:

﴿وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾﴾ [طه: 13-14]

{ Mi subiimo Ma jenta ko wahyete daa ko (13) Ko Miin tigi woni Alla dewettdo alah si wonah Kam wadde darnu juulde ngam siftorde Mi. (14)} [Taaha 13-14]

Alla daali hombo habra gaa e Muusa yo O his pellet kanko o mooliima e Alla O maaki:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾﴾ [غافر: 27]

{Pellet miin mi mooliima oom Am e Joom mon e kala mawnikiniido mo goongidinaani nande hasboore.} [Gaafir: 27]

Alla habri gaa e Masihi yo O his O Daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: 51]

{Pellet, ko Allah woni Joomam e Joommon.ndewee Mo.*Ko dum woni laawol peewngol ngol} [Aali Imraan: 51]

Alla habri kadi gaa e Masihi yo O his O Daali:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: 72]

{Eehey mon Bani Israa*iil ndewee Alla Joom Am e Joom mon pellet kala denndindo Mbo e goddum Alla harmina aljanna e dow makko jaajnde mum ko jayngol tooñoobe ndañatah walladiibe..} [Al Maa*ida:72]

Accu boom hay Tawreet e Injiil arii e majje ko in tentina rewde Alla kamko tan, joli e Sifru Attasniya konngol Muusa yo kisal won e mum:(Nan Aan Israa*iil Joomiraawo deweedo men ko joomiraawo gooto)Arii kadi e Injiil Murqus tentinde Tawhiid, nde Masiihu maaki:(Ko adii e wasiyaaji hee woni: Nan aan Israa*iil Joomiraawo men dewateedo ko gooto).Alla O holliri wonde denndaangal Annabaabe neliraa ko himme njano, ko oon woni noddude faade e Tawhiid Alla toowdo On Daali:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ [النحل: 36]

{ wollahi Min imminii e kala mofte Nulaado,won de ne ndewee Alla, ngoditodon bewnaydi din.Hino e mabbe on Mo Alla feewni,hino e mabbe kadi on mo majjere nden jojji e mun} [Annahli 36]

Toowdo On daali:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحqاف: 4]

{Maakanbe mbela be yi*i kobe noddada kon ko wonah Alla kollee Kam kobe tagi e leydi he, wolla na woodaniibe gedal e nder kammuuji he, addenee Kam deftere ko adii nde wolle batte ummrde e ganndal si on wonii goongube} [Al

Ahqaaf :4]

Asseekh Assaadii (yo Alla hinno mo) wi'iAnndaama won de ne jeddi sirkoobe be e sirku maɓbe fawaaki e hay daliilu gooto, kono be tuuknii ko sikkeeki penaale e miijooji contuɗi, e hakkilaaji bonɗi, na hollu ma bon de rewindaande alhaaliiji maɓbe e gannde e golle maɓbe, e ndaarde gasuɓe nguurndam e rewde diin mbela nafiibe(diin deweteedi ko wonah Alla) huunde e aduna ma e laakara)?Taysiir Al Kariim Al mannaan :779.

6. Alla Mbo senaare woodani toowɗo On Kay woni tagɗo kaandudo rewede O waasa rewede e hay gooto:

Alla woni kaandudo e rewede kank tan, godɗo haanaani rewede e makko, Alla daali:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿21﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿22﴾﴾ [البقرة: 21-22]

{Eehey mon yimbe ndewee Joom mon takɗo on,takɗo adiiɓe mon, ngam kulon (21) O baɗaɗo on leydi ndi ko mbertudi O waɗi kammu on mahdi O tellini ndiyam ummorde ka kammu O yaltini heen besnooje ngam wona arsuka mon wadde wotee mbaɗanee Alla goreebe tawa hoɗon nganndi (22) } [Al Baqara: 21-22]

Oon takɗo men O tagi girle gadiide men O waɗani en leydi ko ndaɗɗudi O jippini e men ndiyam ummorde ka kammu O yaltinani en heen besnooje, ko kamko tan haani rewede kam gooto Alla toowɗo O daali:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿3﴾﴾ [فاطر: 3]

{Eehey mon yimbe ciftere dokke Alla e dow mon,mbele na woodi takɗo mo wonah Alla arsikinoowo on ummorde e kammu e leydi, dewateedo alah si wonah Alla ko honno yiiltorto ɗon.} [Faatiri: 3]

Oon tagoowo On O arsaqina, kamko tan haandi e reweede, Alla toowdo O daali:

﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام:

[102

{Ko Oon Alla woni Joom mon deweteedo alah e goongo si wonah Kamko, Ko Kamko woni takdo kala huunde wafde ndewee Mbo Kamko de ko O defido kala huunde.} [Al Anaam: 102]

Kala ko rewa ko wonah Alla dum haandaani e reweede, sabu dum alah ko foti e gabbel jarra e nder kammuuji e ka leydi ndi, o renndaani e Alla hay huunde, o wonah balladiijo, wadde hono on noddirte maa wafde ndendadiijo e Alla, Alla toowdo O daali:

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ

فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: 22]

{Wii noddee been be ngaay'ifon ko aldah e Alla be ngalah fotde gabbel jarra nder kammuuji e nder leydi be ngalah hedi gefal be e ngalah heen kadi balloowo..} [Assaba*i: 22]

Ko Alla jom senaare toowdo O woni takdo tagaadi din O wootni di ummaade e baasal,gootgol diin na tinndina gootgol makko Mbo e toppitaade e njeymum e Alliyankaawal Makko,O daali:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ (21) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿22﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَسَائِلِ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿23﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿24﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿25﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ ﴿26﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿27﴾﴾ [الروم: 20-27]

{Ina jeya kaawniide mum kam takde mon e leyi refti ngontudon yimbe saaktatoobe (21) Ina jeyaa e kaawniide Makko nde O tagani mon e pittaali mon suddibe ngam ndeey'on e mum en O wadi hakkunde mon gilli e yurmeende pellet wonii e duum teskuyaajiji wonan de miijotoobe (22) Ina jeyaa e kaawniide Makko tagde kammuuji e leydi e seertude demde mon e mbaadiiji mon pellet wonii e duum teskuyaajiji wonan de binnde de. (23) Ina jeyaa e kaawniide Makko daanagol mon jemma e ñalawma e dabude mon e bure Makko Ina e duum teskuyaaji wonan de nanoobe (24) Ina jeyaa e kaawisaaji Makko nde O hollata mon maje wona kulol e damaaw e tellinde ndiyam ummorde e kammu O wuurtanira dam leydi caggal maayde ndi pellet wonii e duum teskuyaaji wonan de hakkilbe (25) Ina jeyaa e kaawniidi Makko nde kammu e leydi darato e yamiroore Makko, refti si O noddii mon noddaadu ummorde e leydi ngonon e yaltooobe (26) Woodanii mbo wonbe e kammuuji e leydi kambe fof hobe njankananii MboKo Kanko fuddata tagoorende refti O ruttande koko newi e Makko}

Namruude yeddi gootgol Alla, Ibraahiima mo jam e kisal woni hono no Alla habriri:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَهيمَ فِي رَبِّهِ إِذْ أَنبأَهُ اللهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبرهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِيءُ وَيُمِيتُ قَالَ أَنأُ أَحْيِءُ وَأُمِيتُ قَالَ إِبرهيمُ فَإِنَّ اللهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾﴾ [البقرة: 258]

{ Ibraahiima wi*i pellet Alla na addira naange nge funnaange addir nge hirnaange,keefeero o foola Alla feewnatah tooñoobe.} [Albaqara 258]

Ko hono noon kadi Ibraahiima dalnitori e yimbe mum won de ko Alla feewni mbo ñammini mbo yarni mbo si o ñawii safra mbo, ko Kamko warata mbo wuurna mbo, o wi*i no Alla habiriri e mum:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي مُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾﴾ [الشعراء: 78-81]

{Oon takdo mi, ko Kamko feewnata mi (78) Ko Kamko ñamminatami O yarnami (80) Somi ñawii ko Kamko safratami Oon baroowo mi refti O wuurtina mi (81) }[Assu*raa:78-81]

Alla daali Hombo habra gaa e Muusa yo o his wonde O tottii Fir*awna hujjo o wi*i:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾﴾ [طه: 50]

{Oon tottuɗo kala huunde tagoore mayre refti o feewi.} [Taaha :50]

Alla eelti denndaangal ko woni e kammuuji e leydi sabu nedɗo, O fiildi nedɗo o dokke makko, ngam o rewa Alla o waasa yeddude Mbo, Alla toowdo wi*i:

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴿٢٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢١﴾﴾ [لقمان: 20]

{Mbele on *njaani ko Alla eeltani on ko woni e kammuuji e leydi O juurti e mon dokke mum peeɗde e birniide ina e yimbe he yeddandirteebe e fii Alla ko alдах e ganndal wonah peewal wonah deftere jalbunde.} [Luqmaan: 20]

Hono no Alla eeltirani yimbe kala woni e nder kammuuji e leydi,Alla taganii-mbo O heblani mbo ko o hatajini e mum: nandɗe,naniki jiidde e bernde nde janngirta ganndal nafatngal mbo,ngal tinndina mbo keeta mum Takdo

mbo O,Alla toowdo daali:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78]

{Ko Kamko woni jaltindfo mon e deedi yummiraa be mon tawi on nganndah hay huunde O waɗani on nandɛ e jiide e berɛ ngam njetton Mbo.} [Annahli: 78]

Alla ceniido O, tagii denndaangal binnde de, O tagi Aaade O heblani mbo kala o hatajini e mum gila e terɛ haa e cemmbe refti O okki mbo kala ko wallata mbo e ummaade e dewal Alla e wuurnude leydi, refti O eeltani mbo kala ko woni e nder kammuuji e leydi.

Alla hujjinori takgol makko de tagooje tagaade mawde wonde ko Kamko wonii Joomiraawo haandudo e reweede Alla ceniido O daali:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]

{Ko hombo arsakinta on ummaade e kammu e leydi ko hombo jeyi nandɛ e jiide e hombo yaltinta ko wuuri ummaade e ko maayi,o yaltina ko maayi ummaade wuuri O yiila fiyakuuji,maɛe wii ko Alla mati on hulatah. } [yuunisi 31]

Goonga ceniido O daali:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنَبِّئُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]

{Maakanbe mbela be yi*i kobe noddata kon ko wonah Alla kollee Kam kobe tagi e leydi he, wolla na woodaniɛ geɗal e nder kammuuji he, addenee Kam deftere ko adii nde wollo batte ummorde e ganndal si on wonii goongube.} [Al Ahqaaf:4]

Alla daali:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾﴾ [لقمان: 10-11]

{O tagi kammuuji ko alдах caldi di nji*aton O werlii e leydi hee pende haa ndi waasa dimmbude mon,O saakiti e mayri kala kuulel duugawel, O tellini ummorde e kammu ndiyam min pudniri dam kala noonoojii teddundi dum ko tagoore Alla kolle kam ko wobbe be tagi, accu tooñoobe hebe e majjere laabtunde.} [Alluqmaan: 10-11]

Goonga ceniido O daali:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [الطور: 35-37]

{Mbele be taga ko alдах ndiga wolla ko kambe woni tagbe be (35) Wolla be tak kammuuji e leydi? accu boom be njananaaka(36) Mbela hoobe njogii moftirdi Joome O wolla ko kambe woni foolbe be (37) } [Attuur: 35-37]

Asseekh Saadi wi*i:dum ko dallinoraade e dow mabbe huunde nde be mbaawatah si wonah jebbilanaade goongo ma be njalta hakkillantaagal e diine .Tafsiir Ibnu Saadii: 816.

7. Ko Alla woni takdo kala ko woni e nder winndere he,ko nji*aten ko eko en nji*ataako,kala ko wonah Alla ko tagoore ummaade e tagooje Mum,Alla tagii kammuuji e leydi e nder balde jeegom:

Ko Alla woni takdo kala ko woni e nder winndere he,ko njiatenko*eko en nji*ataako,kala ko wonah Alla ko tagoore ummaade e tagooje Mum,Alla tagii kammuuji e leydi e nder balde jeegom:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفَعَا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلْفُوا كَخَلْفِهِ فَتَشَبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: 16]

{Wii hombo woni Joom kammuuji e leydi, wii ko Alla wii mbela on njogitoto mbo wonah Alla heedbe be ngalanah ko*e mabbe nafaore maa lor, Wii mbele bumdo e ji*oowo na pota wolla nimre e annoore na pota wolla be mbaɗan Alla renndadiibe takbe hono tagoore Makko duum ko tagaa ko na nanndi e dow mabbe Wii Ko Alla woni takdo kala huunde ko Kamko woni gooto pooloowo.}[Arraadu: 16]

Alla toowdo On daali:

﴿...وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8]

{Hombo taga ko on nganndah} [Annahli: 8]

Alla tagi kammuuji e leydi e nder balde jeegom O daali:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: 4]

{Ko kamko tagi kammuuji e leydi e nder balde jeegom refti foti dow Danki Makko he,Hombo anndi ko jolata e leydi e ko yaltata e mayri e ko tellatoo ummaade kammu e ko yawata e mammba Hombo wondi e mon kala nokku do ngondon,Alla na yi*a ko golloton ko} [Al Hadiid: 4]

Alla daali:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: 38]

{wollahi Min tagii kammuuji di e leydi ndi e ko woni e hakkunde majji nder balde jeegom,te tampere memaani Min heen} [Qaaf :38]

8. Alla Mbo senaare woodani toowdo O, O alah denndadiijo e laamu Mum wolla tagoore Mum maa e yiilde Mbo fiyakuuji wolla e dewe Mum he.

Alla Mbo senaare woodani toowdo O, ko Kamko woni jom laamu O alah denndadiijo e takgol Mum he wolla e laamu mum he wolla e jiilgol Mum he, Alla toowdo O daali:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾﴾ [الأحقاف: 4]

{Maakanbe mbela be yi*i kobe noddata ko ko wonah Alla kollee Kam kobe tagi e leydi he,wolla na woodaniibe gefal e nder kammuuji he, addenee Kam deftere ko adii dum woll batte ummrde e ganndal si on wonii goongube} [Al Ahqaaf :4]

Asseekh Assaadii (yo Alla hinno mo) wi:i:(Ey: Wii bee do renndadinbe Alla e sanamji e goreebe be ngalah nafoore wolla lor be ngalah maayde, nguurndam wolla ummital ñalngu darnga, wiibe : labbinanaabe ronkere sanamuuji mum en, di kaan daani hay huunde e reweede, (Kollee kam kobe tagi e leydi he wolla boom mbel na woodaniibe gefal e kammuuji he) mele be tagii huunde e buurti kammuuji wolla e leydi? Mbele be tagii ceene wolla be ndoknii caatli? Mbela be caaktii kulle wolla be puɗni leɗɗe ? Mbele ina e mum en balludo no huunde e deen gefe tagira ? hay huunde e duum be wadaani, wadde dum ko daliil hakkilleyanke wellet tigi won de rewde ko wonah Alla ko meere.Refti O jantii waasde daliil eggaado O daali: (Addenee Kam deftere adiinde ndee do) deftere noddore e sirku (Wolla batte ummrde e ganndal) donaade e Nulaabe jamirooje duum. Ina jeyaa ko anndaa won de kobe ronkuba daliil ummaade e Nulaabe cemmminoowo kobe noddata ko, ko dum wadi min pelliti won de denndaangal Nulaabe noddii ko e wootadinde Joom mabbe e riiwde sirku ko dum furi mawnude ko egaa ko e mabbe.Tafsiir Ibnu Saadii: 779. Alla jom senaare O woni jeydo laamu O alah denndadiija e laamum makko he, Alla toowdo O daali:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26]

{Wii: Aan Alla Aan woni jeydfo laamu, hada totta laamu mbo mbelada, hada teeta laamu e mbo mbelada, teddina mbo mbelada koynaa mbo mbelada, ko e Junngo Ma moy/ere woni, pellet ko A kattandfo kala huuunde} [Aali Imraan: 26]

Alla toowdfo daali hombo labbina laamu timmungu na woodani Mbo ñalngu darno:

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]

{ñalngu mbo be njaltata hay huunde e mabbe wirnataaka Alla, hombo laamu woodani hannde ? Ko Alla bajjo pooloowo O} [Gaafir: 16]

Alla Mbo senaare woodani toowdo O,O alah denndadiijo e laamu Mum wolla tagu Mum maa e yiilde Mbo fiyakuuji wolla e rewde Mbo:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّنْيَا

وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: 111]

{Wii: Denndaaangal jattooje ngoodaii Alla Mbo jogitaaki bidfo te woodanaani Mbo denndadiija e laamu makko he, O alah keeda e koyeere mawnin Mbo kala mawningol.. } [Al Israa*i: 111]

Alla daali:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: 2]

{Mbo laamu kammuuji e leydi woodani, O jogitaaki bidfo, O alah denndadiijo e laamu mum he,O tagi kala huunde O hoddari nde kala koddirgol..} [Al Furqaan:2]

Ko kamko woni jeydfo, mbo wonaa Mbo fof ko jeyaado, ko kamko woni takdo mbo wonaa mbo woo ko tagaado, ko Kamko yiilata fiyakuuji mbo alhaali mum wa*i nih fof na haani rewede, rewde godfo goo ko ustaare hakkille e sirku bonnoowo aduna e laakara, Alla toowdfo O daali:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: 135]

{yahuud en mbi*ijuubebe:ngonee yahuud en peewon nasaara kamen ne juulbebe ngone nasaara peewon,wi*acce ngonon e diine Ibraahiima ooñingol kalo mehre kala faade e majjere ngol,O wonaana e sirkooŋbe..} [Al Baqara 135]

Alla daali:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

خَلِيلًا﴾ [النساء: 125]

{Alah burdo moyyude diine wonannde oon jebbilido e yeesa Alla tawa hombo moyyi o rewi e diine Ibraahiima ooñiido gah gah mehre e majjere,Alla jaggarii Ibraahiima Sehil..} [Annisaa*i: 125]

Alla goongo laabtani won de kala dewdo ko wonah laawol Ibaahiima mo jam e kisal woni e mum,o daayni hoore makko,Alla daali:

﴿وَمَنْ يَرْعَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ

الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: 130]

{Alaa duurnotoodo (calotoodo)laawol Ibraahiima sonaa mbo fittaandu mum daayi nganndee Min cubiima mo e aduna kamko o jeyaa ko e moyyube to laakara.} [Al Baqara : 130]

9. Alla ceniido O, O jibinaani O jibinaaka O alah paso wolla nandadiijo.

Alla ceniido O,O jibinaani,O jibinaaka,O alah paso wolla nandadiijo Alla ceniido daali:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1-4]

{Wii Kank Alla ko O gooto. (1) Alla ko paandorteedo (2) O jibinaani O jibinaaka (3) woodanaani Mbo hay pasa gooto (4)}.[Al Ikhlalas:1-4]

Alla daali:

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65]

{Jeydo kammuuji e leydi e ko woni hakkunde majji wadde ndewee Mbo muññita e dewal makko he mbela hada anndi tokoro wonande Mbo.}
[Maryam: 65]

Mbo goongo woni fiyaaku mum daali:

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ

كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]

{Takdo kammuuji e leydi O wafani on ummaade e ko*e mon suddiibe e ummorde e neemaraadi di nooneji O hebbini mon e nder mum O alah nanndadiijo ko Kamko woni nanoowo ji*oowo..} [Assuura: 11]

10. Alla ceniido toowdo O, O tellataako e nder huunde, O banndintaako e nder huunde e tagoore mum he:

Alla ceniido toowdo O tellataako e huunde O banndintaako e huunde e tagoore Makko, O wondatah e huunde habe ngona gootum, sabu ko Alla woni takdo , ko wonah Alla fof koka tagaa, ko Kamko woni keddatoodo mbo wonah Mbo fof koka gasata, kala huunde ko Kanmko wonii laamdo e Jeydo, O tellataako e huunde e tagoore mum he, huunde kadi e tagoore mum he tellataa ko e jaati mum he kanmko ceniido O? Alla mbo senaare woodani buri mawnude kala huunde, buri teddude, Alla toowdo O daali hombo yedda been aayiibe wonde Alla telliima e Masiihu habe ngonti gootum:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ

يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا

يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 17]

{wollahi yeddi been wiibe pellet ko Alla woni Masiihu Ibnu Maryama,wii hombo waawi e Alla huunde si O faalaama halkude Masiihu Ibnu Maryama e

Neene makko e been wonbe nder leydi kambe fof? woodanii Alla laamu kammuuji e leydi e ko woni e hakkunde majji, hombo taga ko welaa Alla ko O kattandɔ kala huunde.} [AL Maa*ida 17]

Alla daali:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قٰنِیْنُوْنَ ﴿١١٦﴾ بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یُقَوِّلُ لَهُ ۗ كُنْ فَاَیْكُوْنُ ﴿١١٧﴾﴾ [البقرة: 115-117]

{Woodanii Alla funnaange e hirnaange, kala ɗo kuccitɗon ko toon woni Yeesa Alla pellet Alla ko O jaacɗo ganndo tigi (115) be mbiii Alla jogatiima bidɗo senaare woodanii Mbo accu ko woodi ko woni na woodani Mbo ko woni e kammuuji e leydi kanji hodɗi njankinanii Mbo (116) puɗdiido takde kammuji e leydi si O ñaawii huunde O wi*ata tan ko won nde wona. (117)} [Al Baqaratu 115-117]

Alla daali:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا اِذًا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْسِفُ الْاَرْضُ وَنَخْرُ الْجِبَالَ هَدًا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا یُنْبَغِیْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ یَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتٰی الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ اَحْصٰهُمُ وَعَدَّهُمُ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِیْهِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾﴾ [مریم: 88-95]

{be wi*i Jurmatooɗo O jogitiima bibɗɗo (88) Ko goongo on kaali konngol mawnungol (89) Kammuuji diin na ɗesa seekaade heen leydi ndi fetta kaaje ɗi pukoo jirbugol (90) Sabu nodditaadebe won de ALLA Jurmotooɗo na jogii bidɗo (91) Haananaani Jurmotooɗo O nde jogotoo bidɗo. (91) Alah ko woni e kammuuji si wonah ara e na woni maccuɗo Jurmatooɗo O (93) O fiilti limoore mum en O limibe kalo limgol (94) Kambe fof mabe ngar e makko gooto gooto (95)}. [Maryama : 88-95]

Alla daali:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: 255]

{ Alla, alaa dewetee doo si wanaa kamko, Wuurdo Niibudo. Njone nanngataa Mo, wanaa kadi doyngol. ko Kamko Jeyi huunde ko woni ka kammuuli e huunde ko woni ka leydi. Ko hommbo woni on tefnotoодо ka Makko si wanaa e yamiroore Makko? hombo anndi ko woni yeeso mabbe, e ko woni baawo mabbe. Be hubindotaako huunde e ganndal Makko ngal si wanaa ko O Muuyi. Jullere Makko nden no yaaji buri kammuuli din e danki ndin. Reenugol di aaninaa Mo. Ko Kamko woni Toowudo Mawdo On..} [Al Baqara: 255]

Mbofiyaaku mum woni nih, fiyaaku tagoore Makko wonri nih, hono O waawrata tellaade e gooto habe ngonta gootum? wollo O jogitoo bidfo? Walla O waddadam dewateedo godfo?.

11. Alla ceniido toowdo ko endiido jurmiido jiyaabe Mum, ko dum wafi O nuli Nulaabe O jippini defte.

Alla Toowdo ko endiido jurmiido jiyaabe Mum, sabu yurmeende mum jiyaabe Makko O nuli e mabbe Nulaabe O telli e mum en defte, haa O yaltinabe nibe keefaraagu faade annoore tawhiid e peewal Alla Toowdo O wi*i:

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحديد: 9]

{ Ko Kamko tellinta e maccudo Makko aayeeje laabtude ngam O yaltinabe nibe faade e annoore pellet Alla ko endotoodo jurmotoodo.} [Al Hadiid: 9]

Alla daali:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الانبيا: 107]

{ Men Nuliraani ma si wanaa Yurmeende wonannde winndire nden} [Al Anbiyaa: 107]

Alla yamiri Annabi Makko yo habru jiyaabe wonde ko kanko woni jaafatodo jurmotoodo Alla toowdo O daali:

﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: 49]

{Habru jiyaaɓe Am be ko Miin tigi woni jaafatooɗo jurmotooɗo} [Al Hijri 49]

E newuya makko e yurmeende makko,ko kamko woni kuncoowo lor O tellina jam e dow jiyaaɓe Makko,Toowɗo O daali:

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107]

{Siko lor nanngii Ma alah kuncoowo mbo si wonah Kanko, si O faalaama e mah jam hay gooto waawah ruttude bural Makko ngal homba totta ngal mbo welaa e jiyaaɓe Makko ko Kamko woni jaafaatooɗo jurmotooɗo.} [Yuunus: 107]

12. Ko Alla woni Joomiraado jurmotooɗo, ko kamko googto haasbata tagoojede Ñalngu darngo saango nde O umminibe e genaale mum en, gooto fof yobe ko golli ko mojji, te hombo goondini , woodanii mbo neema duumiido, oon golluɗo ko boni woodaniimbo lepte njane ka laakara.

Ko Alla woni Joomiraawo jurmotooɗo, ko kamko tan haasbata tagoojede Ñande darnga nde O umminibe e genaale mum en,O yoba gooto kala ko golli ko,mo golli ko golle mojje te hombo gumi woodanii mbo neema duumiida,mo yeddi golli ko boni noon woodanii mbo lepte njane Ñande darngo,na jeyaa e timmude nuundal ceniido toowdo O e yurmeende Makko wonan de tagoore nde,ko O laatini ko aduna woni galle golle O wadi galle dimmo to hasbeede e njobdi ngonata,mo golli ko laba dana baraaje,mo golli ko boni o bewi heba lepte bewre mum,dum na woodi e pittaali na njeddi dum,Alla noon darnii dallilaaji buy na tinndina won de ummital ko goongo mbo alah jeddi,Alla daali:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خُشْعَةً إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الْأَرْضَ أَحْيَاهَا لَمُحِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: 39]

{Ina jeyaa aayeeje mum hada yi*a leydi ndi na hoyi, si O tellinii e mayri ndiyam ndi fuufa puɗi, wadde Oon guurnitɗo ndi, Ko guurnitoowo maayɓe pellet kamko ko kattandɗo kala huunde} [Fussilat :39]

Alla daali:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْثَبَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: 5]

{Eehey mon yimɓe si on cikattiima ummital pellet ko Minen tagi mon e leydi refti Min mbaɗi mon toɓɓere refti Min mbaɗi mon heɗɗere refti Min mbaɗi mon husere timmunde tagoore e nde timmaani tagoore ngam Min laabtiinana on, Min ñiibna e ranngaaji ko Min kaaji haa e lajal kappaadɗo refti Min njaltina mon suko refti njottaɗono satteende mon, ina e mon sankatoobe ina e mon ruttateeɓe e nguurndam burɗam jaasde haa o waasa anndude caggal ɗuum hay huunde, hada yi*a leydi ndi hondi woni maayndi so Min telliinii e mayri ndiyam ndi dilla ndi fuufa puɗi ndi fudna teeltungel labangel} [Al Hajju: 5]

Alla jantii e o aaya dallillaaji tati jaaduɗi e hakkille wonde ummital na woodi:

1- Alla tagri neɗɗo e gadanol ko leydi, sabu ko o tagri ɗum ko e leydi hollii wonde hombo waawi mbo ruttude e nguurndam nde o wonnoo e leydi.

2- Oon takɗo ummaade e toɓɓere neɗɗo bannduyanke, ko kattandɗo ruttude mbo faade e nguurndam caggal maayde.

3- Oon guurtinirɗo leydi ndi tobo caggal dendi maayi hombo hattani wuurnude yimɓe caggal maaygol mum en, ina e o aaya daliil njana e woodeede kaawis alquraana , hono o aaya - te mbo wonah juutɗo- dallillaaji tati jaaduɗi e hakkille e o fiyaaku.

Alla daali:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَدًا عَلِيمًا إِنَّا كُنَّا

فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ (الأنبياء: 104)

{ñande Min cowi kammu o hono no defte cowrate,Min nduttat tagoore nde hono no Min pudfirinoo takdende nih,ko fodoore e dow amen pellet ko Min wadoobe} [Al Anbiyaa:104]

Alla daali:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ [يس: 78-79]

{O fiyani Min yeru o yejjiti tageede mum, o wi*i hombo wuurtinta yi*e dappude? (78) Wii wuurnatade ko taknoodođe laawol gadanol Kamko ko O gannda tigi kala huunde. } [Yaasiin: 79]

Alla daali:

﴿ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَدَّلَهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ

صُحَّحَهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَلْنَا ﴿٣٢﴾﴾ [النازعات: 27-

[32

{ Mbele ko onon furi sattu takde wollo ko kammu mbo O mahi on (27) O bamti mbildi hembo O fotndi mbo (28) O nibbadini jemma makko o O yaltini ñalawma makko jalbuđo on. (29) Caggal duum O werti leydi ndi (30) O yaltini e hendi ndiyam mayri e durngol mum (31) O tabatini tule de (32) }. [Annaaji*aati:27-32.]

Alla laabtani won de takgol aade buraani sattude e takde kammu e leydi e ko woni e hakkunde majji,kattandó takde kammuuji e leydi horataaka ruttude aade laawol dimmol.

13. Alla ceniido O takrii Aadama e leydi O wadi besngu mum ina beydoo caggal makko, kambe fof poti to bannge asko, alah kobe burindiri si wonah kulol Alla.

Alla ceniido O tagrii Aada leydi O wadi genyol mum ina beydoo caggal makko, kambe fof poti to bannge asko, alah kobe burindiri si wonah kulol Alla. Alla toowdo O daali:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ [الحجرات: 13]

{ Eehey mon yimbe pellet Min tagii mon ummaade e gorel e dewel Min mbadi mon leydi e kille ngam nganndandiron, pellet buri teddude e mon ko burdo hulde Alla pellet Alla ko gannda tigi ko O kompatiido..} (Al Hujuraati : 13)

Alla daali:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا

بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ [فاطر: 11]

{ Ko Alla tagiri on e leydi,refiti e tobbere(maniiyu),refiti O wadi on nooneji.Dewel saawataa,ngel jibintah kadi si wanaa e ganndal Makko.guurnaado wuurnetaake duytetaake kadi e nguurndam makko, si wanaa ina winnda e deftere.Pellet,dum ko newanii dum Alla.} [Faatiri: 11]

Alla daali:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ

لِتَكُونُوا شِيعًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّىٰ مِنْ قَبْلِهِ لِتَبْلُغُوا أَجْلًا مُّسَمًّى وَلِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ [غافر: 67]

{ Ko kamko tagi on ummaade e leydi refiti O wadi on tobbere maniyyu refiti O wadi on heddere refiti o O yaltini on e deedi yummiraabe mon ko on sukaadibe haa kellifedon cemmbinon caggal duum ngonton nayebe,ina e mon sankatoobe ko adii,e haa njottodon e lajal kappangal mbelee joo kakkilon. } [Gaafiri: 67]

Alla Toowdo O daali hombo laabtina wonde tagii Masih e yamiroore won,hono no O tagiri Aadama e leydi e yamiroore won,Toowdo O daali:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران:

[59

{ Pellet, sifa Iisaa ka Alla, ko wano Aadama; O tagirii mo e leydi, refti O daalani mo: "Laato!" o laatii..} [Aali Imraan: 59]

Adinoomo janteede tonngoode (2) wonde Nulaado mo jam e kisal ngoni e mum hollarii wonde yimbe fof poti alah kobe burdi si wonah hulde Alla..

14. Kala jibinaado jibintee ko e neesu.

Kala jibinaado jibintee ko e neesu Alla toowdo daali:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ

الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]

{ Tabatin yeeso ma e diine mbo wooñaaki faade e majjere, takgol Alla mbo O takri yimbe e dow mum, alah bayloowo tagoore Alla , ko duum woni diine peewdo loy kono ko buri heewde e yimbe ngandah } [Arruum: 30]

Haniifa noon ko diine Annabi Ibraahiima yo jam kisal won e dow mum:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: 123]

{ Refti min mbahyii faade e Maa ya a rew diine Ibraahiima ooniido gaa kala majjere O jeyanooko e sirkoobe.} [Annahli: 123]

Be maaki kadi:Alah jibinteedo si wonah o jibinee e neesu baabiraabe makko mbaada dum yahuud wolla nasraani maa majuusi, hono no dammuwol jibanirta timmungol mbele hodon tina e hedi gurmangol ?.Refti Abu Hurayrata wi*i yo weluya Alla won e dow mum:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ

الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]

{ Tagoore Alla nde O takri yimbe e dow mum, alah bayloowo tagoore Alla , ko duum woni diine peewdo koy kono ko buri heewde e yimbe ngandah }

[Arruum : 30]

Sahiih Bukhaari 4775.Be maaki kadi:Ko noon Joom am yamarii kam nde nganndinat mi on ko majjudon, ko O anndini mi hannde e o ñalwma : Kala ko okkumi maccufo Am ko ka dagii, pellet Mi tagii jiyaabe Am foocciibe kambe fof, seytaani arii e mum en yaltaniibe diine mum en, mbo harmini e mum en ko daknan Mi be, mbo yamaribe yobe cirkid am e godfo be ko mi addanaaniibe hay hujja goot e duum.Ko Muslim fillii mbo 2865.

15. Hay gooto e yimbe he jibidinteedo e goopol, ma o rona goopol godfo:

Hay gooto jibidintaake e goopol ma o rona goopol makko ngol tanaa makko, Alla habrii en wonde Adama mo jam e kisal ngoni e mum, nde O luutndii yamiroore Alliyankoore,O naami kamko e jom suudu makko e lekki he, O nimsi o tuubi,o torii Alla yaafaawuya, Alla lonngani mbo nde o haalata konngudi laabdi, o haali di, Alla jabani mbo tuubaabuya O daali:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فِيمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [البقرة: 35-38]

{ Min ndaali Aan Aadama hofo e jom suudu ma aljanna ñaamon heen ko yaaji ko dakmi to weladon wotee badee kii lekki njeyedon e tooñoobe (35) Seytaane fergatibe o yaltaniibe tobe ngonnoo e mum, Min daali telle, yogo e mon wona añbe wobbe be, woodanii on ñiibirde e leydi he e dakmitorde haa e yonto (36) Aadama hebii ummaade e Joomi makko konngi O jabani mbo tuubuubuya, ko Kamko woni jaboowo cay tuubuubuya Jurmotoodo (37) Min ndaali tellee onon fof si peewal arii ummorde e Amen kala dewfo peewalam kulol wonatah e dow mum en be wonah sunotoobe (38)} [Albaqara : 35-38]

Nde Alla jabanno Aadama tuubuubuya, o seerti e bakkaat, refti geñol makko ronatah goopol makko ngol sabu ngol ittriima tuupgol, woni asli ko hay gooto roondotaako goopol godfo goo, Alla Toowdo O daali:

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبِئْبَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
 ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [الأنعام: 164]

{ Alah ko wonki faggitto si wonah ko e dow makki fawatee hay gooto roondotaako bakkat janano, refti ko to Am woni ruttorde mon Mi habra on ko luutratna don e nder mum } [Al An*aam: 164]

Alla daali:

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأَتَمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَأَتَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا
 مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾﴾ [الإسراء: 15]

{ Mo feewii, haray pellet, ko hoore-makko o feewani mo majii kadi, haray pellet, ko o majji kon yantay e hoore-makko. Wonkii ronndotaako bone wonkki gotki. Men wonaali leptooɓe, haa Men immina Nulaado. } [Al Israa: 15]

Alla daali:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾﴾ [فاطر:
 18]

{ fittaandu roondotaaka bakkaat fittaandu goo, si teddaɗo noddi walleede e donngal makko, o roondantaake hay huunde e mum, hay si o wonno badiido mbo, njeertita ko huloobe Joo mum en e mbirniindi ɓe ndarni juulde, kala laabɗo laabani ko hoore mum, ko ka Alla woni battane.} [Faatir: 18]

16. Woni faandaare tagde aade en ko haa ɓe ndewa; Alla tan:

Woni faandaare tageede aade ene jinneeji ko haa ɓe ndewa Alla kamkon tan Alla daali:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاريات: 56]

{ Mi tagaani yimɓe e jinneeji si wonah yoɓe ndewam } [Ajjaaariyaati : 56]

17. Islaam teddinii aade -rewbe e worbe- O defanii mo denndaangal hakkeoji makko O wadi mbo naamnitteedo denndaangal ko o subii e golle e ko o firilitii, O roondi mbo naamniteede kala golle lerooje hoore makko maa wobbe.

Islaam teddinii aade- worbe e rewbe- Alla toowdo O tagi aade ngam o wona lomto Makko ka leydi O daali:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...﴾ [البقرة: 30]

{ Nde Jooma wi*i malaykaaji di ko Mi bafoowo lomto e leydi he } [Al Baqara: 30]

Ngol teddingol ngol Alla teddini aade na renndini aade en fof, Alla daali:

﴿* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]

{ WOLLAHI Min teddinii bibbe Aadama Min roondiiibe ka jeeri e ka maayo Min arsaqiniibe laabdi Min burniibe ko heewi e ko Min tagi ko kala burnugol.} [Al Israa'i: 70]

Alla daali:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]

{ Min tagii neddo e sifa burdo fooccaade } [Attiin :4]

.Alla hadii neddo o nde o wonata cukkuudo koydo wonande mbo o rewata on, wolla cukkateedo ma doftateedo mbo wonah Alla, Alla daali:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: 165-166]

﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: 166-165]

{ Ina e yimbe he jaggiroowo ko wonah Alla goreebe be yidabe hono no Alla yidirite,been gumbe buri sattude gilli wonande Alla,si been tooñbe nji*ii ndebe yi*ata lepte won de cemmbe fof woodani ko Alla ko noon kadi lepte Alla ko cattude,siftor tuma nde hisnii been rewanoobe e bone been

rewatnoobe,be nji*i lepte gilli jokkandiral tay'i hakkunde maɓɓe } [Al Baqara: 165-166]

Alla toowɗo daali hombo laabtina alhaali rewoobe e reweteɓe e meere ñalngu darngo:

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُمُ أَنْحُنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُمُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرٌ لَّيْلٍ وَالتَّهَارُ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا الْوَدَّامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سبأ: 32-33]

{ Mawnakininoobe mbi*ani lohnanoobe mbele ko minen paddii on gaa e peewal caggal nde ngal ari e mon,accu onon kay on ngonno bonɓe (32) Lohnanoobe ɓe mbii mawninkinoobe ɓe accu ɗum ko hodo jemma e ñalawma tuma nde njamiratna ɗon min nde min njeddata Alla min cosana Mbo goreejo, ɓe cuudi mimsa nde ɓe njii lepte nde, Min mbaɗi tonngi e daade heefareeɓe, mbela on njobete si wonah ko golluɗon. (33) } [Sabaa: 32-33]

.Ina jeyaa etimmugol nuun ɗal Alla ceniido toowɗo ñande darnga nde O roondata noddoobe e imaamoobe majjinoobe ɓe bakkatuuji mumen e bakkatuuji ɓe ɓe majjinta ɓe ko alдах e ganndal, Alla toowɗo O daali:

﴿يَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ [النحل: 25]

{ Ngam ɓe ndoondoo bakkatuuji mumen e bakkatuuji ɓeen ɓe majjini ko alдах e ganndal, ee bonii kobe ngacci ko...} [Annahli: 25]

Alla defaniima aade denndaangal hakkeeji makko nder aduna e laakara, ko furi mawnude e hakkeeji ɗi Islaam defanii aade mbo bannginidi wonande aade en ko: Hakke Alla e dow yimɓe e hakke yimɓe faade e Alla.Ummaade e Mu*aaj yo weluya Alla won e mum,o wii: Nulaaɗo togganiino kam O maaki: (Aan Mu*aaj) mbiimi A nootaama e malal Ma, refti O maaki yeru mum laabi tati:(mbele ana anndi hakke Alla e dow jiyaabe?) Mbiimi alah,O maaki (hakke Alla e dow jiyaabe ko ndebe ndewata Mbo ɓe mbaasa renndinde Mbo e hay huunde)refti O yahi waktu O maaki:(Aan Mu*aaj) Mbiimi A nootaama e malal,refti O maaki:(mbele ana anndi hakke jiyaabe e Alla,sibe gollii duum O waasaɓe leptude?)Sahiih Bukhaari

6840.

Islaam defanii aade hakke diine makko goongo e besngu makko e jawdi makko e nguru makko. Be maaki kadi: Pellet Alla harmanii e mon y'iy'ameeje mon e jawdeele mon e guri mon hono hurum ñdalawma mon o e lewru mon ndu e nder leydi mon ndi. Sahiih Bukhaari 6501.

Nulaaɗo yo jam e kisal won e mum bannganii e aadi mawɗo e hajju baynagol mbo ko buri teemedere ujunere Sahaabi tawano, O fillii oo maana O teentani mbo nder ñalawma layya (NAHRI) e hajju baynagol. Islaam fawii aade denndaangal ko o subii e golle e pirlitale mum, Alla daali:

﴿وَكُلِّ الْأَنْسَانَ الزَّمَنَةَ طَيِّبَةً فِي عُنُقِهِ وَنُخِرَ لَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ [الإسراء: 13]

{ Kala neɗɗo Min ñiiɓnani mbo talkuru makko e daande makko, Min njaltinana ndu wonande mbo ñande darngo o tawa hondu wertaa, o wi*ee jannan hoore ma deftere ma, wonki ma yonii ma hannde kaasboowo..} [Al Israa: 13]

Kala golle foti ko mojje maa ko bonɗe Alla waɗat ɗe takkiide e golluɗo ɗe o, ɗe yawtataa mbo faade e tanaa makko, aade haasbirtaake golle goɗɗo goo, Alla daali:

﴿يَأْتِيهَا الْأَنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: 6]

{ Eehey maa aade pellet ko a tampoowo faade e Jooma kala tampugol, ma a hawru e Makko. } [Al Insiqaaq: 6]

O daali:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]

{ Kala golluɗo ko moy'yi, ko fii hoore-makko; kala kadi bonnuɗo, yantay e makko. Joomi maa siforaani won de, tooñoowo jeyaabe ben } [Fussilat: 46]

Islaam na roonda neɗɗo ndaartiregol kala golle lerooje mbo maa lerooje wobbe, Alla daali:

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 111]

{ Kala paggatiido bakkaat o faggatii mbo ko e dow hoore makko, Alla woniina te seeraani wonde ganndo ñeenyuɗo } [Annasisaa: 111]

Alla daali:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ [المائدة: 32]

{ Ko duum wadi Min parli e Banii Israa*il tigi tigi oon bard'o fittaandu ko aldah e fittaando maa o wadi bonannde e leydi he,o wa*i ko e bard'o yimbe bee fof, kala guurnudo ndu o wa*i kono guurnudo yimbe bee fof.} [Al Maa*ida : 32]

Be maaki kadi:Fittaandu waretaake e tooñanng'e si wonah wonah wona e biy Aadam'a gadana o jogoo defaare e y'iiyam mum he,sabu ko kamko adii diidde laawol warngo ngoSahiih Muslim 5150.

18. Islaam na fotndi debba e gorka to bannge golle e defaade ko o golli ko e njobdi e baraaaje:

Islaam na fotndi debba e gorka to bannge golle e defaade ko o golli ko e njobdi e baraaaje, Alla Toowdo on daali:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 124]

{ Kala golludo e golle moy'ye foti ko gorko wolla debbo hombo gomdini, ko been de naatata Aljanna be tooñetaake fotde gufel tamaro..} [Annisaa: 124]

Alla daali:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97]

{ kala golludo e moy'yi foti ko gorko wollo debbo te hombo gumi, ma Min nguurnu mo nguurndam beldam Min yoba'be njobdi ma'bbe burndi moy'yude kobe golluno } [Annahli : 97]

Alla daali:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالَّذِينَ مِن بَيْنِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [غافر: 40]

{ Kala baddo bonanne yobetaake si wonah yeru hende,kala golluddo ko moy'yi foti ko o gorko wollo ko debbo,been ngoni naatoobe Aljanna be ngarsiqe heen ko aldah e limgol..} [Gaafir: 40]

Alla daali:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35]

{ Pellet juulbe worbe e juulbe rewbe e goondife worbe e goondinbe rewbe e yankaniibe worbe e yankaniibe rewbe e gumbbe worbe e gumbbe rewbe e muñbe worbe e muñbe rewbe e hulbe Alla worbe e hulbe Alla rewbe e sakkortoobe worbe e sakkortoobe rewbe e hooroobe worbe e hooroobe rewbe e reenoobe farjiiji mabbe worbe reenoobe farjiiji mabbe rewbe e innoobe Alla ko heewi tawa ko worbe e innoobe Alla ko heewi rawbe Alla heblaniibe yaafaawuya e njobdi mawndi . } [Al Ahjaab:35]

19. Islaam teddini debba mbo jaggri debba ko funeere gorko, mbo waddini gorko nafqade tawi hombo hattani, ko kanko kadi nafqata biyum debba e yumma makko, biddo gorko nafqata yumma makko si o hellifaama o hattani, jom galle kadi fawaa nafqade jom suudu mum.

Islaam nanngiri rewbe ko funeebebe worbe.Be maaki kadi:Pellet rewbe ko funeebe worbe.Ko Tirmidhi fillii mo 133.Ina jeyaa ko islaam teddini ko debba, fawde nafaqe yumma e dow biddo makko gorko si tawii hombo hattani.Be maaki kadi:Junngo tottoowo toowngo ko yummo tottata refti

baaba refti bandiraawo debba refti musiddoma gorko refti burbe badaade burbe badaade. Ko Imaam Ahmad fillii mbo. Maa laabtin de daraja jipaafe ar e sakkitoore Alla e tay're (29) Ina jeyaa ko hollata islaam na teddini debba, kombo waddi ko nafaqe debba e dow jom galle makko tawii hombo hattani, Alla daali:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]

{ Yo nafqu jom yaajeende ko o yaajnana ko, oon mbo yaajnanaako noon, yo o nafqu e ko Alla hokki mbo ko, Alla fawatah fittaandu kondu hattantah, ma Alla wad newuya caggal satteende } [Attalaaq: 7]

Gorko gooto naamniinoma Nulaado yo jam e kisal won e dow makko: Hol ko woni haqqe debba e dow gorka? O wi*i: yo o ñammin mbo si o weelaama, o holtina mbo si o holii, woto o fiy yeesa makko woto o kaanin mbo. Ko Imaam Ahmad fillii mbo.

Nulaado mo jam e kisal woni e mum maaki hombo hollita yogo e hakkeji rewbe e dow jom galleeji mum en. Na woodani suddiibe be e dow jom galleeji mum en nafaqe mabbe e koltu mum en no moy'irta nih. Sahiih Muslim.

Be maaki kadi: Yoni aade bakkaat nde yeebatoo mbo o foti wuurnude. Ko Imaam Ahmad fillii mbo.

Khataabii wii: Konngol makko (mbo o wuurnata) faanda heen kombo nguuro mum fawii, maana mum: O wii cakkordo o: woto sakkor ko burtaani nguura galle ma ngam yiilaade baraaaje, si wonah noon dum wontat bakkat, si a yeebiimo yimbe galle ma. Ina jeyaa ko Islaam teddiniri ko debbo, ko fawde nguure biddo debbo e dow baaba makko Alla daali:

﴿* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ [البقرة: 233]

{ Jipnaabe na muynina bibbe mum en kitaale didi timmude, wonan de faalaado timminde muynam, na fawii e dow jibinanaado o arsuka mum en e koltu mum en na moy'iri nih. } [Al Baqara: 233]

Alla hollitii wonde na fawii e dow baaba jibinanaado suko, ñamminde e holtinde mbo e mbaadi labaandi, Alla daali:

﴿...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...﴾ [الطلاق: 6]

{...Sikobe muyninanii mon totteebe njoyɓdi mum en...} [Attalaaq: 6]

Alla fawi njobdi muynam cuklel e dow baaba sabu tinndinde won de nafake suko ko e dow baaba fawii, foti ko suko debbo maa ko gorko, Hadiis aroowo o na tinndina fawaade nafaqe cuddiido e sukaaɓe mum e dow baaba. Ummaade e Aaysa yo weluya Alla won e mum: Hindi wii Nulaado mo jam e kisal ngoni e mum: Abu Sufyaan ko gorko dawoowo tigi, mida hatajini nde yettatmi huunde e jawdi mum hee, O Maaki: yettu ko yon maa aan e sukaaɓe maa tawa ko mbaadi moyy'iri. Ko Bukhaari fillii mbo.

Nulaado tedduɗo o hollii bural nafqude sukaaɓe e banndiraabe rewɓe, Nulaado Alla yo o his wii: Oon guurnudo jiwɓe dido maa tato wolla banndiraabe mum en dido, wolla tato, haa be maayi wolla o maayi o acci be, mami wonda e makko hono dɗi dɗi: O joopi honndu makko jooprdu e hakkundeeru ndu. Assilsilatu Assahiiha 296.

20. Maayde wonaa kuubal duumingal, maayde ko eggude galle golle faade e galle njobdi, maayde na heba banndu e fittandu, maayde fitaandu woni seerde ki e banndu, refti ki ruttoo e hendu caggal ummital, fittaandu ruttataaka e banndu wodndu ki tummbittaake kadi e banndu wodndu.

Maayde wonah gaggol duumingol, Alla daali:

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: 11]

{Maaku na maayna on Malikul mawti oon keednaado e mon refti koto Joomi mon nduttete don.} [Assajadah :11]

Maayde hebata ko banndu e fittaandu, maayde fittaandu woni seerde ndu e banndu he, refti ndu ruttoo e hendu caggal ummita ñande darngo, Alla daali:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
 الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42]

{Alla Hombo wara pittaali saanga maayde majji yonti, di maayaani e doydi majji, O nannga ñaawanaa ndu maayde ndu O accita wonndu ndu haa e happu dottaado, ina e duum kaawisaaji wonande miijatoobe.} [Ajjumuri: 42]

Be maaki kadi: **Pellet si wonki tamaama ndaarde ndewa heen.** Ko Muslim fillii mbo 920. Caggal maayde aade egga galle golle faade e galle njobdi, Alla daali:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
 الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42]

{Ko e makko woni ruttorde mon onon fof, fodoore Alla ko goongo, pellet Hombo fuddo tagoore refti O ruttande haa O yoba been goondinbe refti be golli golle moy'ye e , been heeferbe woodaniibe njaram nguldam e lepte cattude sabu kobe yeddunoo ko.} [Yuunis: 4]

fittaandu eggatah caggal maayde faade e banndu goo,ki tummbittaake, nodditaade tummbiteede wonkiji hakkille tinndinaani dum,te ko so*etee kadi tinndinaani dum,hay daliil gooto eggaado ummaade e Annabaabe yo jam won e mum en seedaaki nde fibnde.

21. Islaam noddata ko e gumre tawa mbo fawii ko e tuugle gumre mawde de,ko deen ngoni:goondinde Alla e Malaykaaji Makko e defte Alliyankooje dee,hono Tawreet,Injiil e Jabuur ko adi nde de mbaylatee nde,e AlQuraana e goondinde denndaangal Annabaabe e Nulaabe e goondinde ñalngu cakkatiingu,heden anndi si nguurndam aduna wonna cakkatiidam maa nguurndam e goodal ngonatno fijirde banngunde,ko noon kadi no waddii jabde hoddira e ñaawoore:

islaam na nodda faade e goondinde asleeji gumre njani dñn, denndaangal Annabaabe Nulaabe yo kisal won e mum en noddii faade e dñn,dñn ngoni:

Gadanel: goondinde ko Alla woni Joomiraawo tagdo arsiqinoowo jiiloowo nde winndere, ko kamko tan haandi e reweede, rewde mbo wonah Kamko ko meere, haanaani reweede si wonah Alla, dewal sellatah si wonah sabu Makko. Dallillaaji hollirde o fiyaaku yawtii tonngoode 8.

Alla jantiima dñi asliiji njani e nder aayeeje keewde ceertufe nder Alquraana teddufo o, Alla daali:

﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِنَّكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

{Nulaado goondinii ko tellinaa ko e mum ummaade Joom makko, fof en ngoondinii Alla e malaykaaji Mum e defte mum e Nulaabe Mum, Min ceerndatah hay gooto e Nulaabe Mum, 6e wii min nanii min doftiima hafran amen, Joomi amen ko e Maa woni weernde.} [Albaqara: 285]

.Alla daali:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾

وَالسَّابِقِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾ [البقرة: 177]

{diggere firtaani nde kuccitinton jeece mon faade funnaange e hirnaange kono diggere woni goondinde Alla e ñalawma cakkatiido e malaykaaji e deftere e annabaabe o tottiri jawdi won dude ko o yidindi ko badiibe e alyatimeebe e miskineebe e datniibe e naamnatoobe e jiyaabe e darnooobe juulde e tottiroowo askal e huubnoobe aadi mum en sibe tottorii aadi e muñoobe saanga satteende e lerooji e saanga bittere ko been ngoni hulbe ben } [Al Baqara:177]

Alla noddi faade e goondinde ñii asliiji O holliti wonde kala jeddufo ñii o majjii majjere woɗɗunde Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ
قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾ [النساء: 136]

{Ono goondinbe ngoondinee Alla e Nulaabe Makko e deftere nde O tellini e Nulaado Makko e deftere telliinde ko adii, kala jeddufo Alla e malaykaaji Mum e defte Mum e Nulaabe Mum eñalawma cakkitiido o majjii majjer woɗɗunde.} [Annis: 136]

Arii e nder Hadiis ummaade e Umar Ibnul khattaab yo weluyo Alla won e makko, Nulaado maaki:Ñalnde goo meɗen joodinoo ka Nulaado Alla jam kise yo won e mum, tan y'ellitii e dow amen gorke jom comci,daneeji tal e sukundu baleeru kurum,batte datngal yi'otaako e makko,hay gooto e amen kadi anndaa mo.O joodii takko Annabiijo on (yo o his),o jicci koppi makko ñin faade e koppi maɓbe ñin,o fawi newe makko ñen e hoore buse makko ñen.O wi'i:Ko an yo Muhammadu,humpitam ko woni lisaamu. Nulaado Alla on mo jam e kisyee woni e mun on maaki:L'islaamu,ko nde seedoto-ɗaa reweteedo tanaa Allaahu alaa,e wonnde ko e Makko Muhammadu nuli mo,ñiibinaa julde,tottaa askal,hoora lewru koorko, hajjoyaa to suudu hormanteeru si a haɗtanii e ñum laawol.O wi'i:A goongii['Omar,fillotoodo on hadiise on wi'i:]Men haawaa e oo,himo lamndoo Nulaado on o goongina be.[O lamnditii] o wi'i:Humpitam ko woni liimaanu(gomɗinal).Be maaki:"Ko nde gomɗintaa Alla,e Malaa'ika en Makko,e Defte Makko ñen,e Nulaabe Makko ñen, e Ñalaande Sakkitiinde nden,gomɗinaa kadi koddoruyee:ko moy'yi e mun e ko boni e mun".O wi'i:A goongii.[O lamnditii]o wi'i:Humpitam ko woni lihsaanu (moy'yingol). Be maaki:"Ko nde rewirtaa Allaha wana si tawii haɗa ya Mo.Si

tawii non a yiani Mo,anndu kan himo yia maa".[O lamnditii] o wi'i:Humpitam hode woni darnnga.Be maaki:"Lamndaado on fii maggal wonaali burdo anndude lamndiido on".[O lamnditii]o wi'i: Humpitam fii maande maggal.Be maaki:"Ko nde kordo jibinta jeydo mo,e nde yi'ataa holunooobe [pade],holi [comci],aynaynoobe dammuwaji hobe burndira e toowugol mahdiji".Refti o yehi.Mi ñiibi ko booyi,hooti Nulaado on maaki:"Ko an yo 'Omar,hida anndi ko hommbo woni oo lamndiido?" Mi jaabii:ko Alla e Nulaado Makko on furi anndude.Be maaki:"Oo ko Jibriilu,o arii on himo anndina on diina mon".Sahiih Muslim 8..

E o hadiis Jibriil arii e Nulaado Muhamadu yo o his, o naamii Mbo martabaaji diine diin ngoni: Islaam, Iimaan e Ihsaan Nulaado jaabii mbo, refti Nulaado habri sahabaabe makko wonde ko o woni Jibriil o arii ngam anndinde mon diine mon, ko dum wini Islaam kammbo woni nelal Alliyankeewal ngal Jibriil eggi o yottini ngal Nulaado Muhamadu yo o his, wondiibe makko be ndeeni mbo be njottani mbo yimbe ben caggal makko.

Goondinde malaykaaji : been kobe winndere wirniinde Alla tagibe O wadiibe e mbaadi toddaandi, O fawiibe golle njane, na jeyaa e majje yottinde nule Alliyankooje wonande Nulaabe e Annabaabe yo kisal won e mumen, ko Jiriil furi teddude e Malaykaaji he, na tinndina tellingol Jibriil wahyu e dow Nulaabe he konngol Alla:

﴿يُنزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾

[النحل: 2]

{Hombo jippinira malaykaaji e Ruuhu e dow mbo O welaa e jiyaaabe Makko,njeertinee won de pellet alah deweteedo si wonah Miin ndeentee Kam.} [Annahli: 2]

Alla daali:

﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ

عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُولِينَ ﴿١٩٦﴾﴾ [الشعراء: 192-196]

{Kannde pellet jippinaande ummorde to Jom binnde (192) Jippininde ko Ruuhu koolaado On (193) E bernde ma ngam ngonaa e jeertinoobe (194) E demngal arabiyankeewal laabngal (195) Honde woni e defte adiiibe be (196)} [Assu*araa: 192-196]

Goondinde defte Alliyankooje : hono Tawreeta e Injiil e

Jabuur-ko adii ndefe mbaylete- e Quraana Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿النساء: 136

{Eehey mon goondinbe ngoondinee Alla e Nulaabe Makko e deftere nde O tellini e Nulaado Makko e deftere telliinde ko adii, kala jeddufo Alla e malaykaaji Mum e defte Mum e Nulaado Mum e ñalawma cakkitiifo o majjii majjer woddunde.} [Annis: 136]

Alla daali:

﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٣﴾ مِن قَبْلُ هَدَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤﴾﴾ [ال عمران: 4-3]

{O telliniri deftere nde e maa goongo honde goondini ko woni ko yeesa mayre O tellilini Tawreeta e Injiil (3) Ko adii konde peewal wonande aade en O tellini Furqaan, been yeddube kaawisaaji Alla de woodaniibe lepte cattude Alla ko poolufo jom jobtagol (4) } [Aali Imraana: 3-4]

Alla daali:

﴿عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿البقرة: 285

{Nulaado goondanii ko jippinaa ko e Makko ummade e Joom Makko, e goondinbe be fof be goondanii Alla e malaykaaji Makko e defte makko e Nulaabe makko, min ceerndatah hay gooto e Nulaabe makko, be wii min nanii min doftiima hafran amen Joomi amen ko Mah woni ruttorde} [Albaqara: 285]

Alla daali:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۚ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿ال عمران: 84

{Maaku: "Men gomdinii Alla e ko jippinaa dow amen e ko jippinaa dow Ibrahiima e Isma'iila e Ishaqa e Yaaquuba e Taaniraabe ben e ko Muusaa e

Iisaa okkaa e Annabaabe ben immorde ka Joomi mabbe. Men serndataa hakkunde gooto e mabbe, Menen wonannde Mo ko men jebbiliibe} [".Aali Imraan: 84]

Goondinde denndaangal Annabaabe : e Nulaabe yo kisal won e mum en, na waddii goondinde denndaangal Annabaabe e fiɓde wonde kambe fof kobe Nulaabe ummaade to Alla hoɓe njottina yimbe mum en nule e diine e sariya Alla, Alla daali:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]

{Mbiyee min goondinii Alla e ko tellinaa e amen e ko tellinaa e Ibraahiima e Ismaa*iil e Ishaaya e yaaquuba e Asbaadi e ko Muusa tottaa ko e Iisa e ko Annabaabe tottaa ko ummorde ka Joomi mum en, min ceerndatah hakkunde gooto e mum en, emin njebbilini Mbo} [Al Baqara: 136]

Alla daali:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

{Nulaado goondinii ko tellinaa ko e mum ummaade Joom makko, fof en ngoondinii Alla e malaykaaji Mum e defte mum e Nulaabe Mum, Min ceerndatah hay gooto e Nulaabe Mum, ɓe wii min nanii min doftiima hafran amen, Joomi amen ko e Maa woni weernde..} [Albaqara: 285]

Alla daali:

﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 84]

{“Wii min goondinii Alla e ko tellinaa e amen e ko tellinaa e Ibraahiima e Ismaa*iil e Ishaaya e yaaquuba e Asbaadi e ko Muusa tottaa ko e Iisa e ko Annabaabe tottaa ko ummorde ka Joomi mum en, min ceerndatah hakkunde gooto e mum en, emin njebbilini Mbo.} [Aali Imraan: 84]

Nde o goondinta timmoode mum en Muhamed yo o his, ko kanko woni timminɗo Annabaabe e Nulaabe yo jam won e mum en, Alla daali:

﴿إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]

{Tuma nde Alla y'ettunoo ahdi e Annabaabe ben : "Si Mi Addanii on Deftere e fahmu, refti Nulaado ari e mo'on goongindo kon ko jogidon, ma on gomdin mo wallitodon mo". O Daali: "E on qirritike dum, on y'ettii e hoore mun ahadi?". Be wi'i: "Men qirritike". O Daali: "Seeditee, Mid'o wondi e mo'on ka seeditiibe". } [Aali Imraan: 81]

Islaam na waddina goondinde denndaangal Annabaabe e Nulaabe, na waddina kadi goondinde timmoode mum en Muhamed yo o his, Alla daali:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

[المائدة: 68]

{ Maaku onon jom en defte on ngonaani e hay huunde haa ndanon Tawreeta e Injiil e ko tellinaa ko faade e mon ummaade e Joomi mon.."} [Al Maa*ida : 68]

Alla daali:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]

{ Maaku:"Ko onon yo yimbe Defte,ngaree e konngol fotayngol hakkunde amen e mo'on:wonnde en rewataa si wanaa Alla,en mbaddataa Mo e huunde,wata yoga e me'en jogitor yogo joomiraabe ko woori Alla".Si be huccitii,wi*ee:"ceeditee wonnde menen ko men jebbiliibe } [Aali Imraan: 64]

Kala jeddudo Annabi gooto o yeddiibe kambe fof e Nulaabe fof yo jam won e mum en, ko dum saabii O daali hombo hafra gaa e Nuuh yo o his:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 105]

{ Yimbe Nuuh njeddii Nulaabe. } [Assu*araa: 105]

Na anndaa won de hay Nulaado gooto adaaki Nuuhu, kono nde yimbe Makko njeddi mbo, ngol jeddugol woni jeddugol denndaangal Annabaabe e Nulaabe, sabu noddaandu mum en ko wooturu faandaare mum en ko wootere..

Goondñy'inde ñande darngo: ndeen woni sakkatiinde e nguurndam aduna, Alla yamira Asraafiil o wutta wuttaango faddoowo, kala mbo Alla haaji maaya, Alla daali:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: 68]

{ Wuttee ka Allaandu, kala ko woni ka kammuuli e ka leydi kon faddee, si wanaa ben be Allah muuyani [dadugol]. Refti wuttee e mayru didabol, tawa ko be dariibe na habbitii.} [Ajjumur: 68]

Si halkiima kala ko wonno e kammuuji e leydi, si wonah ko Alla haaji, Alla tagga kammuuji e leydi, hono no O daaliri:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدَّا عَلَيْهَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104]

{ ñande Min cowi kammu o hono no defte sowrate, Min nduttat tagu ngu hono no Min pudfirinoo ngu nih,ko fodoore e dow amen pellet ko Min wadoobe } [Al Anbiyaa:104]

Alla daali:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: 67]

{ be mawnaniraani Alla no O foti mawnanireede nih, te leydi ndii fof ko e tamannde Makko ñande darnga, kammuuji dñi na cowaa e ñaama Makko, senaade woodanii Mbo, O toowii kobe ndenndinta Mbo ko } [Ajjumiri: 67]

Be maaki kadi:Alla sowa kammuuji dñi ñande darnga refti O nanngira dñi ñaamo Makko O daala:Ko miin woni laamdo hodo sanndalinnoobe? hodo mawnikinoo- be,refti O sowira lesdeele de nana Makko refti O daala:ko Miin wini laamdo hodo sanndalinnoobe?Hodo mawnikinoobe?Ko Muslim fillii mo.Refti Alla yamira malayka yo o wuttu heen wuttaango wonngo, e doon be ummoo hobe ndaarandira, Alla daali:

﴿... ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: 68]

{ Refti wuuttee nder hendu wuttaandu wodndu be ummo kisan hobe ndaara. } [Ajjumur: 68]

Si Alla umminii tagu ngu O renndinabe ngam hisaab, Alla daali:

﴿يَوْمَ تَشْفَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ [ق: 44]

{ ñande leydi ndi fetti gaa mum en hobe njaawnoo, dum ko denndingol newingol e Amen..} [Qaaf: 44]

Alla daali:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]

{ ñalgu mbo be njaltata hay huunde e maɓɓe wirnataaka Alla, hombo laamu woodani hannde ? Ko Alla bajjo pooloowo O ngu woodani.} [Gaafir: 16]

nguu ñalngu Alla haasbo aade en,O yoftanoo kala tooñaado ummaade e tooñdo,mo kala yoɓe fotde golle makko,Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [غافر: 17]

{ Hannde kala fittaandu yobete kondu faggatinoo, tooñanng e alah hannde, Alla na yaawi haasboore.} [Gaafir: 17]

Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40]

{ Pellet Alla tooñatah fotde gabbel jarra, si wonii ko moy'ere O sowande O totta ummaade e Makko njeenaari mawndi } [Annisa: 40]

Alla daali:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: 7-8]

{ kala golludo fotde gabbel jarra e moy'ere o yi*a nde (7) Kala golludo fotde gabbel jarra e bonannde ma yii dum (8)} [Ajjaljala : 7-8]

Alla daali:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا

بِهَا ۞ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾ [الأنبياء: 47]

{ Min lelna peesirgal wonande ñalngu darnga, fittaandu tooñetaake hay ndiga, hay si wonii fotde gabbel kardal ma Min ngaddu ngel Min njonii hasboobe } [Al Anbiya :47]

Caggal ummital e hasbeede njobdi ara kala golluɗo ko moy'yi o heba neema duumiido mbo iwatah, kala golluɗo ko boni o heba lepte, Alla daali:

﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ التَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾﴾ [الحج: 56-57]

{ Laamu woodanii Alla hannde Hombo ñaawa hakkunde mum en, been goondife ko moy'yi hobe e nder aljanna neema (56)} Yeddube be noon be njeddi kaawnii am Amen deen woodaniife lepte koynooje (57)} [Al Hajju: 56-67]

Heden nganndi si nguurdam aduna wonno haadtirde,ma nguurdam e goodal wonatna fijirdee bolde, Alla daali:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾﴾ [المؤمنون: 115]

{ Mbele on cikku ko fijirde wadi takmi mon, mbela pellet on nduttataako e Amen } [Al Muumunuun : 115]

Goondinde ñaawoore: e hoddira, duum woni na wadfi goondinde wonde Alla anndii ko wonnoo e ko wonata e nde winndere, Alla winndii dum fof ko adii de kammuuji e leydi tagate, Alla daali:

﴿*وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ رِزْقٍ إِلَّا يُعَلِّمُهَا وَلَا حِجَّةَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رُظْظٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾﴾ [الانعام: 59]

{ Homba jogii cektirde mbirniindi hay gooto anndaade si wonah Kanmko, Hombo anndi ko woni e jeeri e maaya, kaakalol yanatah si wonah tawa Hombo anndi ngol, wonah gabbel e nibe leydi wonah ko heccidi wonah ko yoori si wonah tawa na winnda e deftere banngunde.} [Al An Aam :59.]

Alla na fiiltii kala huunde e ganndal Makko, Alla daali:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾ [الطلاق: 12]

{ Alla woni Oon takdo kammuuji jeefidi e leydi yeru majji Hombo tellina yamiroore hakkunde majji, haa nganndon won de Alla ko kattando kala huunde, te pellet Alla ko piiltiido kala huunde e ganndal Makko..} [Attalaaq: 12]

Alah ko yanta e nde winndere si wonah taw Alla na muuyi dum O haaja, O tagi dum O newni sababuuji mum, Alla daali:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴿٢﴾ [الفرقان: 2]

{ Mbo laamu kammuuji e leydi woodani, O jogitaaki bidfo, O alah denndadiijo e laamu mum he, O tagi kala huunde O hoddarinde koddirgol. } [Al furqaan:2]

Na woodani mbo e duum ñeenyal jottingal, ngal yimbe mbaawah fiiltaade, Alla daali:

﴿حِكْمَةً بِالْعَمَّةِ ط فَمَا تُغْنِ التُّذْرَةَ ﴿٥﴾ [القمر: 5]

{ " ñeeñal jottingal jeertinoobe nafaani.} [Al Qamar: 5]

Alla daali:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ [الروم: 27]

{ Ko kamko fudfi takde ngoore nde refti O ruttande hina newii e makko, na woodani Mbo yeru burngu toowde nder kammuuji e leydi, ko Kamko woni pooldo mbo fooletaake ñeeñudo } [Arruum: 27]

Alla sifarii Hoore Makko nyeenyal, O inniri Hoore Makko ñeenydudo, Alla daali:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَالِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

﴿١٨﴾ [آل عمران: 18]

{ Alla seediima wonde pellet dewettedo e goonga alah si wonah kamko, e malaykaaji e jom en ganndal, Hombo darii e nuundal, dewettedo alah si

wonah kamko, kamko woni pooldo mbo fooletaake ñeeñdufo.} [Aali Imraan: 18]

Alla daali hombo habra gaa e Iisa yo o his, wonde ko kaaldoowo e Alla ñande darnaga, O daali:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118]

{ Si A leptii be, pellet, kambe ko be jeyaabe Maada. Si A haforanii be, pellet, ko An woni Foolufo, Ñeeñdufo.} [Al Maa*ida :118]

Alla daalani Muusa mbo kisal woni tumo nde O noddi mbo e banng'e Tuur:

﴿يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النمل: 9]

{ Aan Muusa ko Miin de pellet woni Alla poolufo ñeeñdufo } [Annamli: 9]
sifari iAL quraana teddufo ñeeñal, Alla daali:

﴿الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]

{ Alif laam Raa, deftere nde aayeeje mayre ñdeeñina ummorde e ñeeñdufo kumpatiido..} [Hud: 1]

Alla daali:

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا

مَذْحُورًا﴾ [الإسراء: 39]

{ duum na jeyaa ko Joom ma wahyii e ñeeñal, woto waddu Alla e deweteedo goddo mbernoyeda e jahannama ñiñaado goddinaado yurmeende Alla.} [Al Israa: 39]

22. Annabaabe ko reenaabe kobe njottinanta ko Alla , kobe reenaabe e kala ko yaadaani e hakkille maa ko jikku kisdfo salato, ka Annabaabe fawaa yottin de jamirooje Alla faade e jiyaabe Makko, Annabaabe ngalah ko Alla heerori ko e jeyde e reweede, alah kambe kobe bannduyankoobe, hono denndaangal aade en, Alla na wahyoo e mabbe nule Makko de:

Annabaabe kobe reenaabe kobe njottinanta ko Alla, sabu Alla suboto e burbe e tagoore Mum he be njottinana Mbo nule Makko de, Alla daali:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75]

{ Alla na suboo ummaade e malaykaaji nulaabe e yimbe hee kadi homb subo e madbe nulaabe, pellet Alla ko nanoowo ko ji*oowo.} [Al Hajji: 75]

Alla daali:

﴿*إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]

{ Pellet, Alla Subike Aadama e Nuuhu e yimbe Ibraahiima ben e yimbe Imraana ben e hoore tagoore nden.} [Aali Imraan: 33.]

Alla daali:

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَأَلَمِي فَخُذْ مَاءً اتَّيْتُكَ وَكُن مِّنَ

الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: 144]

{ O Daali : "Ko an yo Muusaa, Min Mi suborii ma e yimbe ben Nule Am den e konngol am ngol. Jogito ko Mi jonnu maa kon jeyedaa e yettooobe ben } [Al Araaf: 144]

Nulabe be jam e kisal ngoni e mum en hobe nganndi ko tellinaa ko e dow mum en ko wahyu Alliyanke, hobe ceedo malaykaaji na tellina wahyu, Alla toowdo O daali:

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٦﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ
عَدَدًا ﴿٢٨﴾﴾ [الحجن: 26-28]

{ Gannda mbirniindi hay gooto O y'ellittah e mbirniindi Makko hee.(26) Tawi wonah Mbo welaa e Nulaada, oon de Hombo nulda yeeso makko e caggal makko maleykaaji reenoobe (27) Haa o annda wonde be njottanii nule Joom mabbe de tigi O fiiltii ko woni koo e mum en O tonngi limoore kala huunde. (28)} [Al Jinni 26, 28]

Alla yamiribe yottinde nunal Makko ngal O daali:

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رَسُولَاتِهِ وَوَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: 67]

{ Ee hey maa Nulaado yottin ko tellinaa ko e Maa ummaade e Joom Maa, si A wadaani A yottinaani nul Makko ngal, Alla na reen Maa e yimbe he, Alla dee feewnatah tooñoobe ben..} [Al Maaùida :67]

Alla daali:

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا﴾ [النساء: 165]

{ Nulaabe weltinoobe e jertinoobe fii wata hujja wonan yimbe ben e hoore Alla baawo Nulaabe ben. Alla Laatike Fooludo, Ñeeñudo..} [Annisaa: 165]

Nulaabe yo kisal won e Mum en hobe kuli Alla kulol cattungol, be kuli Mbo be beydatah e nunal Makko hee, be ustatah heen hay huunde, Alla daali:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ
مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: 44-47]

{ Siko o fekandinoomo e Am yogo e konngudi (44) Ma Min nanngir mo naama (45) Refti Min tay'a e makko boggi bernde makko (46) Alah e mon palantoodo mbo (47)} [Al Haaqa: 44-47]

Ibn Al kasiir (yo Alla hinno mo) wi:i:Alla toowdo O daali: (si o fekandiima e Amen yogo e konngudi) Si Muhamadu yo O his fekandiima e Amen O beydi maa o usti heen huunde O askini dum e Amen, Ma Min cafrir dum lepte, ko

dum wafi O daali: (ma min nanngir mbo ñaama) wi*aama: ma min leptir mbo ñaama, sabu ko kanngo buri sattude jawlannde, wi*aama kadi : Ma Min nanngu e ñaama makko wolla woondoore makko.O daali:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ وَإِن كُنْتُ لَفُتْنَةً فَلَئِنَّكَ أَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي لَئِن كُنْتُ عَلِيمٌ لِّلْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْنَا لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾﴾ [المائدة: 116-117]

{ Esiftor tumo nde Alla daali Aan lisa biy Maryama,ko Aan maakani yimbe be njaggiree kam Miin e Neene am rewetebe ko wonah Alla,O maaki senaade woodanii Ma,haanaani mi nde kaalat Mi ko wonah goonga,somi haalii duum pellet hada anndi dum,Ana anndi ko woni e fittaandu am Mi anndah ko woni e fittaandu Maa,pellet ko Aan woni Ganndo mbirniindi,Mi wi*aanibe si wonah ko njimirdon Mi ko,ndewee Alla Joomam e Joomi mon,Mi laatina seede e dow mum en nde ngon Mi nde e mum en,nde kuubnuda Mi nde ngon-daa Koroowo e dow maɓɓe,Aan ko a ceediido e dow kala huunde } [Al Maa*ida :116-117]

.Ina jeyaa e bure Alla e dow Annabaabe e Nulaabe Mum yobe kis, Alla tabatiniibe saanga ndebe njottinatnoo nule Makko dee, Alla daali:

﴿إِن تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ [هود: 54-56]

{... O wii pellet mino seedna Alla ceede komi kisd e ko cirkaton ko(54) e tanah Makko on sabbetaake(55) Tigi tigi Mi wakkaliima e Alla Joomam e Joom mon alah daabaayel goodangel si wonah hombo nanngi e tiintiinol maggel,pellet Joom am ina e laawol pociingol } [Hud: 54-56]

Alla daali:

﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيتَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَا تَخْذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَن تَبْنَتْنَا لَفَدَّ كِدْتِ تَرْكُنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَدْفَنَّاكَ فِي الضَّرْبِ وَضِعْفِ الْحَيَاةِ وَضِعْفِ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ

{ Sibe desiiina fitnindema gaa e ko Min mbahyii ko faade e Ma ngam pekindada e dow Amen huunde goo ndeen de mabe njaggir Ma sehil (73) So Min tabintinaano Ma A desatno wuuraade e mabbe setta (74) Sinnda noon Min mednayno Ma sowre nguurndam e sowre maayde refti A hebatah e Amen balloowo. (75).} [Al Israa: 73-75]

Aayeeje dee e ado majje ko seede e daliil wonde AlQuraana koka tellinaa ummorde ka Alla Jom binnde,si nde ummina ka Muhammadu yo o his,nde soomatah yeru ko haala huccinaaka e makko.Alla jom senaare na reena Nulaabe makko e yimbe, Alla daali:

﴿ يَا أَيُّهَا رَسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ [المائدة: 67]

{ Ee hey maa Nulaado yottin ko tellinaa ko e Maa ummaade Joom Maa, si A wadaani A yottinaani nul Makko ngal, Alla na reen Maa e yimbe he, Alla dee feewnatah heeferoobe ben. } [Al Maa*ida 67]

Alla daali:

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ [يونس: 71]

{ Taranobe kabaaru Nuuhu nde O maakannoo yimbe makko,ee hey mon yimbe am si wonii mawnii e mon ñiibgol am e siftinirgol am aayeeje Alla dee,Mi wakkaliima e Alla,ndenndinee fiyakuuji mon e renndadiibe mon,refiti fiyakuuji mon din mbaasa won dow mon ko na wirne refti kuccane kam wote cabbere e kam } [Yuunis: 71]

Alla daali hombo habra konngol Muusa mo kisal woni e dow makko:

﴿ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعِنَا ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿٤٦﴾ [طه: 45-46]

{ Be mbii pellet minen emin kuli nde o fantinta jaggitgol e dow amen wolla o bewa, O daali taa kulee pellet Mina wondi e mon Mina nana Mi yi*a }

[.Taaha :45-46]

Alla holli won de hombo reena Nulaabe Makko ummmaade aŋbe mum en,be yottintaabe bonannde,Alla holli kadi Hombo reena wahyu Makko on,mbo ustetaake mbo beydetaake O daali:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]

{ Ko Minen tellini ALquraana ko Minen reenata mbo } [Al Hijri :9]

Annabaabe yo kisal won e Mum en ko renaabe e kala ko yaadaani e hakkille wolla jikku, Alla daali hombo labbina Muamadu:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]

{ Aan hada woni e dow jukku teddufo.} [Al Qalam: 4]

O daali e Makko kadi:

﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾ [التكوير: 22]

{ Gondiijo mon wonah haangaaka.} [Attakwiir: 22]

Sabu bade ndaroo e nelal ngal e mbaadi burndi labeede,Annabaabe yo kisal won e mum en na pawaa yottinde jamirooje Alla ngam jeyaafe Makko,be ngalah noon ko Joomi men heerori to banng e Aliyankaagal ma e banng e wonde deweteedo,kambe kobe aade en hono no aadee en fof,wahyu na teloo e mum en, ngam nule Alla, Alla daali:

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كَانَ لَنَا

أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [ابراهيم: 11]

{ Nulaado mabbe ben wiibe Min ngonah si wonah bannduyankooobe kono Alla na yeda mbo O welaa e Jiyaafe Makko,woodanaana Min nde Min addanta on hujja si wonah e sakkitoore Alla, ko e Alla tan goondinbe pawatoo } [Ibraahiima: 11]

Alla daali na yamira Nulaado makko Muhamadu yo o his yo O haalan yimbe mum:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ

عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110]

{ Maaku pellet komi bannduyanke hono mon, ina wahye e am wonde tigi tigi deweteedo mon ko gooto, kala tijjido hawrude Joomi makko yo o gollu

23. Islaaml noddata ko yoo Alla tan rewire asliiji dewe Alla njane den, deen ngoni: Juulde nde ngannudaa woni daraade e rukuu e sujuud e yettude e manntude Alla e toraade,juulda na juula ñande fof laabi joy, seerugol hakkunde gala e baasdoola e laamfo e laamaado fof ittoo, kambe fof be ndaroo e sappe goota e nde juulde he, e Askal dum ko huunde setta e jawdi won dude e sarteeji e emmbereji di Alla dotti, dum na wafdi e jawdi aldube nafqiree waasbe e tanaa mum en, laawol gootol kala hitaande, e Koorka ko dum woni nanngude hoore mum e ko firtata koorka nder ñalawma lewru koorka, dum na neha fittaandu to bannge muuyaande e munyal, e Hajju ko dum woni yaade to ssuudu hormaandu ndu, nduun woni Makka laawol gootol nder nguurndam wonande baawfo, e oo hajju fof en na pota to bannge huccitde e takfo O, aade en fof pota ceergol hakkunde mum en ittoo fes.

Islaam na nodda faade e dewe Allaa njane den... de dewe Alla fawiife e denndaangal Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mabbe, buri mawnude e dewe Alla ko:

1. Gadanel ngel woni: Juulde nde Alla farli nde e dow juulbe hono no O farlirinde e denndaangal Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en, O yamiri annabi Makko Ibraahiima yo o his nde o labbinta suudu Makka ndu wonande wanngatoobe e juuloobe e sujjoobe, O daali:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]

{ Nde Min mbaɓno suudu ndu ko barjordu e hoolaare wonande aade en, njaggiree Maqaam Ibraahiima juulirde, Min aadani Ibraahiima e Ismaa*iil labbinee suudu Am ndu wonande wanngatoobe e uufnatoobe e waɗayɓe rukuu e sujuud } [Al Baqara: 125]

Alla waɗɗini ɗum e Muusa yo o his, e noddaandu adanuru ndu O noddi Muusa O daali:

﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴿١٤﴾ ﴿طه: 12-14﴾

{ Pellet ko Miin woni Joomiraawo ma solu paɗe ma haɗa woni e caatngol ceninangol tuwaa (12) { Mi subiimo Ma jenta ko wahyete ɗaa ko } (13) { Ko Miin tigi woni Alla deweteɗo alah si wonah Miin wadde ndewe Kam darnu juulde ngam jantadaa Mi..} (14) } [Ṭaaha 12-14]

O habri Masiihu yo o his, wonde Alla yamarii mbo juulde e askude o wii hono no Alla habiriri:

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [مریم: 31]

{ " O waɗi kam barkinaaɗo e nokku kala ka mi woni; O wasiyori lam julde e Jakka, fodde mido wuuri...} [Maryama: 31]

Juulde e nder Islaam ko darnde e rukuu e sujuud e jantaade Alla e mantude Mbo e toraade, neɗɗo na juula laabi joyi kala ñalawma Alla daali:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]

{ Ndeene juulɗeele e juulde hakkundeere nde ndaranee Alla hoɗon yankinanii Mbo } [Al Baqara: 238]

Alla daali:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]

{ Darnu juulde saanga ooñagol naange haa nibel jemma e juulde subaka juulde subaka ko ka seeda } [Al Israa: 78]

Be maaki kadi:Mawninee Joomiraawo saanga rukuu, tawii ko saanga sujuud tiinnee e toraade sabu na haani nde njaabante don.Sahiih Muslim..

2. Askal ngal: Alla farli e juulbe hono no O farlirnoo ngal e Annabaabe e Nulaabe adiiibe be yo kisal won e mum en, askal ko fotde e jawdi tawa na fawii e sardiiji di Alla hoddiri, hongal fawii e jawle aldube ngal tottee waasbe e tanah mum en kala hitaande laawol gootol, Alla daali:

﴿حُدْمِنَا مَوْلَاهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ [التوبة: 103]

{ Nanngu e jawle mum en sadak labbinaabe heen du*anoibe pellet du*aawu Ma ko hubindaare wonandebe Alla de ko nanoowo ganndo..} [Attawba: 103]

Nde Nulaado yo o his nulnoo Mu*aaju yo weluya Alla won e makko faade Yaman o maakani mo: Pellet ma ar e yimbe joman en defte, noddube faade e seedaade alah dewetee do e ngoonga si wonah Alla, Miin komi Nulaado Alla tigi, sibe doftiimo ma e duum anndiibe farlaama e mum en juuldeeley joyi kala ñalawma e kala jemma, sibe doftiima ma e duum anndiibe Alla fawii e mum en askal ummaade e jawle mum en ngal nanngede aldube mabbe tottee waasbe, sibe doftiimo ma e duum reento jawle mum en burde teddude, reento noddugol tooñaado sabu heedo alah hakkunde nduun noddaandu e Alla. Ko Tirmidhi fillii mo

3. Hoorde: ko Alla farli dum e muslim en hono no farliri dum e Annabaabe e Nulaabe adiiibe, yo kisal won e mum en. Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ [البقرة: 183]

{ Eehey mon goondinbe koorko farlaama e mon hono no ka farlirano e adiiibe mon ngam kulon Alla.} [Al Baqara: 183]

Koorko woni accude bonnooji koorko e nder lewru koorko, koorko na neha e nder fittaandu muñal e muuyaande. Be maaki kadi: Alla na daala : koorko ko miin woodani ko Miin yobata ka, saba koordo na acca tuuyo mum e ñaamdu mum e yardu sabu Am, koorko ko heedo, na woodani koordo beltaaje dide: weltaare si o humtiima e weltaare si o hawrrii e Joomi makko. Sahiih Bukhaari 7492.

4. Hajju noon: ko Alla farli dum e juulbe hono no farlirnoo mbo e Annabaabe e Nulaabe adiiɓe yo kisal won e Mum en, Alla yamiri Annabi Makko Ibraahiima yo o his, nde o noddata faade e hajju Alla daalai:

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27]

{ Noddu yimbe be faade e hajju be ngara hobe cuudo e dow kala dehiidi be ngara ummorde e laabi godɗud } [Al Hajju :27]

Alla yamari mbo nde o labbinta suudu ndu wonande been hajjooɓe, O daali:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ

السُّجُودِ﴾ [الحج: 26]

{ Nde Min holliti Ibraahaama nokku suudu ndu woto o renndin amen e tanaa amen hay huunde, labbin suudu ndu wonan de wanngatoob e dariiɓe e turotoobe e sujjoobe..} [Al HAJJU: 26]

Hajju woni:faandaraade suudu Alla hormaandu wonndu to Makka golle ganndaade laawol gootol nder nguurndam wonan de kattandɗo Alla daali:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنٍ﴾

الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]

{... Woodanii Alla e dow yimbe hajjude e suudu ndu wonande kattandɗo laawol faade e hendu, oon jedduɗo noon pellet Alla na yondanii gaa e winndere hee.} [Aali Imraan: 97]

E nder hajju juulbe be ndenndata e nokku gooto hobe cellini dewal Alla, denndaangal hajjooɓe hobe tottira dewe e mbaadi nanndundi na seera heen hakkunde mum en ceerundale neesu e pinal e tolnde nguura.

24. Ina jeyaa ko buri waawde seerndude hakkunde dewe Alla: Node ngollirtee nih e waktuuji majje wolla sarteegi majje, Alla sariyanii de Nulaado mum yo o his yottanide, aade en naattaani e hede ustude maa beydude haa hannde, dee dewe Alla njane fof woni ko denndaangal Annabaabe e Nulaabe noddata.

Ina jeyaa ko buri waawde seerndude hakkunde dewe Alla: Node ngollirtee nih e waktuuji majje wolla sarteegi majje, Alla sariyanii de Nulaado mum yo o his yottanide, aade en naattaani e hede ustude maa beydude haa hannde, dee dewe Alla njane fof woni ko denndaangal Annabaabe e Nulaabe noddata:

﴿...الْيَوْمَ كَمَا مَثَلْتُمْ كُمُودِيْنَ كُمُودِيْنَ كُمُودِيْنَ كُمُودِيْنَ كُمُودِيْنَ كُمُودِيْنَ﴾ [المائدة: 3]

{... Ko hannde kempinan Mi on diine mon, timminan Mi on dokke Am, mbelanaa Mi on diine Islaam diine...} [Al Maa*ida :3]

Alla daali::

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: 43]

{ Jogito kon ko wahyinaa e maada. Pellet, hida jokki laawol pocciingol..} [Ajukrufi: 43]

Alla daali gaa e juulde:

﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ

الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]

{ Si on gaynii juulde inntee hodon ndarii e hodon njoodi e banngeeji mon, si on ndeeyi ndarnee juulde, pellet juulde ko farilla waqtinaado e dow juulbe.} [Annisaa: 103]

Alla daali e no askal e do askal foti totteede:

﴿* إِنَّمَا الصَّدَقَتِلْهُنَّ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمَوْلَافَةَ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]

{ Anndee sadakaaji din ko fii waasube ben, e miskiinaabe ben, e golloobe e

majji ben, e woowinirteebe berde mun (Lislaamu) ben, e daade rimdinteebe, e ben ñamliibe, e fii laawol Alla e bii-laawol. Ko farilla immorde ka Alla. Alla ko Anndudo Ñeeñudo. } (Attawba: 60)

Alla daali e koorko:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]

{ Lewru koorka ndun, ndu Alqur'aanaare nden jippinaa e mu'un, ko ndu peewal wonannde yimbe ben e bangannduyeeji immorde e peewal e serndugol. On e mo'on seediido lewru ndun, yo o hooru ndu. On tawdo no nawni maa himo e hoore-jahal, ko limtugol e ñaldĩ goo. Alla no Faandanii on neweende O Faandanaaki on sadteende; e fii yo on timmin limoore nden e no mawniniron Alla kon ko O Fewni on, belajo'o on jaarnay Mo.} [Al Baqara:185]

Alla daali gaa e Hajju:

﴿الْحُجَّاتُ شَهْرٌ مَّعْلُومٌ ۖ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِي ۗ أُولَىٰ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197]

{ lebbi anndaadi. Mo anniyike e nder majji hajju,renndugol alaa,wanaa faasoqingol wanaa kadi yeddondiro ka hajju.Kala ko gollugdɔn e moy'ere, Allah no Anndi dum.Yoobe,ko buri moy'yude e njooba,ko gomɗal. Hulee Lam yo joomiraabe haqqillaaji..} [Al Baqara:197]

Denndaangal dee dewe Alla woni ko denndaangal Annabaabe noddɗi, yo kisal won e mum en.

25. Nulaado islaam o Muhamadu kamko woni biy Abdullaay jeyaado e Ismaa*iil biy Ibraahiima yo kisal won e mum en,O jibinaa ko e Makka hitaande 571 j i O nelaa toon O feri faade Madiina O renndaano e yimbe makko ko faati e rewde sanamuuji,kono hombo renndatnoo e mum en ko faati e golle teddufe,yimbe makko no inniratnoo mbo koolaado sabu jikku makko laabdo,nde dañi duubi 40 Alla sembiniri mbo kaawisaaji mawdi,ko Alquraana buri heen mawnu ko kambo woni keddiido haa jooni,nde o timmini diine Nulaado yottini mbo no haaniri nih,o sankii hombo yaara e duubi 63 o wirnaa to Madiina,Nulaado Muhamadu woni timmorde annabaabe e Nulaabe, Alla neliri mbo peewal e yaltinde aade en e nibe sanamuuji e keefaraagal e majjere,faade annoore tawhiid e iimaan,Alla seedi wonde O nelii mbo noddowo faade e Alla e yamiroore Makko.

Nulaado Islaam woni Muhamadu biy Abdullaay jeyaado e Ismaaiil biy Ibraahiima, O jibinaa ko e Makka hitaande 571 Ji, O nelaa toon, O feri faade Madiina, yimbe makko na inndiranoo mbo koolaado, O renndaana e yimbe mum ko faati e rewde sanamuuji, kono tan hombo renndatnoo e mum en e golle teddufe, hombo joginoo jikku lobba ko adii nuleede mbo, Alla sifarii mbo jikku lobbo, O daali:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]

{ "Aan hada woni e dow jukku teddufo. } [Al Qalam: 4]

Alla neli mbo nde o hebi kitaale 40, O sembiniri mbo kaawisaaji mawdi, ko alquraana buri heen mawnude. Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki:Alah e Annabaabe si wonah o totte fotde ko yimbe be goondini,

kono Miin tottaa Mi ko wahyu mbo Alla wahyii Mi, mbede joortii nde kebat Mi ko buribe sukkube e amo ande darngo. Ko Bukaari fillii mbo. Aluraana teddufo o ko wahyu faade e Nulaado yo o his, Alla daali:

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾﴾ [البقرة: 2]

{Ndeen deftere sikke alah e mayre, ina e hende peewal wonande hulbe Alla.} [Al Baqara : 2]

Alla Toowfo daali:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾﴾

[النساء: 82]

{Mbele be teskataako Aluraana, sinde ummino ka wonah Alla mabe taw e mayre luural keewngal..} [Annisa: 82]

Alla dikkii yimbe e jinneeji nde be addata yeru mayre O daali:

﴿قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِجُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾﴾ [الإسراء: 88]

{Maaku si aade en e jinneeji ndentii ngam addude hono oo Alquraana, be ngaddatah yeru mammba, hay sibe mballandirii.} [Al Israa:88]

Alla dikkii be nde be ngaddata cimooje sappa yeru mambo, Alla daali:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿١٣﴾﴾ [هود: 13]

{Mbele be wii O fekindi mbo, maaku addee cimooje sappa yeru hembo tawa ko fekiindaade, nodde mbo waawdon noddude mbo wonah Alla tawi ko on goondube"} [Huud: 13]

Alla dikkii be nde be ngaddata simoore wootetre yeru Alquraana Alla daali:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [البقرة: 23]

{Si on wonii e sikke ko Min tellini ko e maccudo Amen ngadde simoore yeru hembra noddee seedeeji mon ko aldah e Alla si on ngonii goondube.} [Al Baqara 23]

Alquraana teddufo o kaawis gooto keddiifo e kaawisaaji Annabaabe haa hannde, nde Alla timminani Nulaado diine, o yottini mbo no haaniri nih, Nulaado sankii hombo yaara e duubi 63, O suuraa to Madiina, yo kisal won e Mum.

Ko Nulaado woni timmoode Annabaabe e Nulaabe, Alla daali:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ [الأحزاب: 40]

{Muhammadu wonaani baabiraado hay gooto e mon, ko woni ko O Nelaado Alla ko O tiimorde Annabaabe, Alla wonii te O seeraani wonde gannda kala huunde...} [Al Ahjaab 4040]

Eggaama e Abuu Hurayrah (yo Alla wele mo), wonnde Nulaado Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki :yeru am e Annabaabe adiiŕe ko hono gorko mahdo galle o moyyini mbo o labini mbo,si wonah tuufeere wootere e jookdu galle he, yimbe na sera mammo e haaweede mbo,hobe wi*a hol ko hadi ndee tuufeere wade? O maaki ko miin woni woni tuufeere nde,ko miin woni timmorde Annabaabe.Sahiih Bukaari.E nder Injiil Masiih wii hombo weltina arde Nulaado Muhamadu yo o his:Haayre nde mahooŕe calii nde, ko kayre woni hoore jookdu ndu, mbela on njanngaani e defte: Yasuu maakibe ummaade ka Joomiraawo dum woniina ko haawnii e gite amen. e deftere tawreetat woodaande jooni nde, jolii heen konngol Alla wonan de Muusa yo o his: (ma Mi darnabe Nulaado e hakkunde musibbe hono ma Mi wada haala Am e hunduko makko he,o haalda e mum en kala ko mbasayii mbo)Muhamadu yo o his Alla nelirii mbo peewal e diine goonga, Alla seedanii mbo wonde ko e goonga o woni, O nelii mbo faade e Makko e yamiroore Makko Alla daali:

﴿كِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾﴾ [النساء:

[166

{Kono Alla na seedoo ko o tellini ko e maa, O tellini dum ko e ganndal makko, e malaykaaji dii na ceedoo Alla yonii seede..} [Annisaa: 166]

Alla daali:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٨﴾﴾ [الفتح: 28]

{ko kamko nuli nulaado makko e peewal e diine goonga ngam O fawa mbo e diineeki Alla yonii seede.}[Al Fathi :28]

Alla nelirii mbo peewal sabi o yaltina aade en e nibbe sanamuuji e keefeeru e majjere faade e annoore tawhiid e limaan Alla daali:

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: 16]

{Hombo feewnira nde oon dewdo weluya Makko laabi kisal O yaltinabe e nibbe faade e annoore e sakkitoore makko e feewnabe e laawol pocusingol.}

[Al Maaida :16]

Alla daali:

﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ

الْحَمِيدِ﴾ [ابراهيم: 1]

{Alif Laam Raa deftere nde Min tellini e maa ko ngam njaltinaa yimbe be e nibbe faade e annoore e sakkitoore Joomi mum en faade e laawol teddufo Jettaado O.} [Ibraahiim: 1]

26. Sariya Islaam mbo Muhamadu addi o, kambo woni timmorde nele Alliyankooje e sariyaaji Joomiraawo, ko kambo woni sariya timmal ko hembo woni moy'ere diine aade en e aduna mum en, hombo reena e daraja gadana: diineeji, y'iiye, jawle, hakkillaaji e jeol yimbe, ko kammba firti sariyaaji gadiidi hono no diin pirtirnoo yogo e majji.

Sariya islaam mbo Muhamadu addi o woni timmoode nele Alliyankooje e sariyaaji ummiidi ka Joomiraawo, ko e mammba Alla timminiri diin, neena timmi e dow yimbe nde Muhamadu yo jam e kisal won e mum nula e mum en Alla daali:

﴿...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ وَعْدِي لَكُمْ بِالإِسْلَامِ

{...Hannde timminan Mi mon diine mon kempinan Mi on neema am, mbelanaa Mi mon Islaam diine...} [Al Maa*ida :3]

Sariya islaam woni sariya timmal e moyyere diine aade en e aduna mum en, sabu hombo renndini ko wonnoo ko sariyaaji ado di, kambo buri timmude, Alla daali:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾

﴿٩﴾ [الإسراء: 9]

{pellet o Alquraana na feewna faade ko ɓɓuri fooccaade hombo weltina juulbe gollube ko lobbi na woodanibe njobdi mawndi} [Al Israa:9]

Sariya Islaam ittii cafeelee yimbe gonnoodɗe e dente gadiide de, Alla daali:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

﴿١٥٧﴾ [الأعراف: 157]

{ Rewatnoobe Nulaad o Annabi mboɓe tawatnoo na winndaa to mum en ka Tawraata e Injiil hombo yamiraɓe ko moyyoi O haɗaɓe ko boni O dagnanaɓe ko laabi O harminanaɓe ko tunwi O tellinaɓe cafeelee mum en e tonngi mum en gonnoodi e mumen, been goondinbe mbo noon be cemmɓini mbo be mballi mbo be ndewi annore nde Min tellini, been ngoni malaabe be} [Al Araaf: 157]

Sariya Islaam woni ittudo denndaangal sariyaaji gadiidi dii, Alla daali:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَٰكِن لَّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

﴿١٤٨﴾ [المائدة: 48]

{ Min tellini e Ma deftere nde e goonga honde goongini defte gon de e yeesande , honde hiilndi e mum, ʼaawir hakkunde maɓɓe ko Alla tellini ko

{ Alaa duurnotoofo (calotoofo) diine Ibrahiima sonaa mbo fittaandu mum daayi nganndee Min cubiima mo e aduna kanko o jeyaa ko e moyyube to laakara.} [Al Baqara : 130].

Alla daali:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

خَلِيلًا﴾ [النساء: 125]

{ Alah burfo moyyude diine wonannde oon jebbilfo yeesa Alla tawa hombo moyyini o rewi diine Ibraahiima oo'iima gah kala majjere,Alla jaggarii Ibraahiima Sehil } [Annisaa*i: 125].

Alla daali Hombo yamira Nulaafo makko Muhamadu yo o his yo O maaku:

﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَبِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

﴾ [الأنعام: 161]

{ Maaku pellet Joom am feewnii kam e laawol poothingol diine poocoowo diine Ibraahiima oo'iido gah gah mehre e fenaande,O jeyanooka e sirkoobe ben } [Al Anaam: 161].

28. Alquraana teddufo o woni deftere nde Alla wahyii Nulaado muhamed yo o his, konde haala Joomiraawo ronkinnde aade en e jinnaaji ndebe addata hono makka wolla simoore waande e mum, haa jooni na ronkaa,al quraana noon na jaaboo naamne kimmude keewde weemnunooje miliyonji yimbe,al quraana o na reena haa hannde e demngal arab ngal mbo telli e mum ustaaka heen hay harfeere, honde muula defte kaande janngeede, wollo janngude ko eggaa e maanaaji mayre faade e demde goo, ko noon kadi sunna nelaado o e siira makko na reena na egga fotde no habroobe hoolaabe kabriri nih, hombo muulaa e demngal arab ngal nulaado haalatnoon mbo eggaa faade e demde keewde, alquraana e sunna, ngoni yaltirde wootere wonan de ʾawooje sariya islaam, sariya islaal nanngetaake e pirlitale aade en askintinatoobe e hembo, kono sariya nanngirtee ko e wahyu Alliiyanke: AlQuraana e Sunna Nulaado.

AlQuraana teddufo o woni deftere nde Alla wahyii Nulaado mum muhamed yo jam kisal won e mum, tawa ko e demngal arab, ko ngaal woni haala Jom binnde, Alla daali:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٦﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٨﴾ بِلِسَانٍ

عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٩﴾﴾ [الشعراء: 192-195]

{ Kannde dee pellet konde jippinaande ummorde to Jom binnde (162) Jippininde ko Ruuhu koolaado On (193) E bernde Ma ngam ngona e jeertinoobe (194) E demngal arabiiyankeewal laabngal. (195)} [Assu*araa:

192-195].

Alla daali:

﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: 6]

{ E pellet, an hidfa lonnginee Alqur'aanaare nden immorde kaeoo Anndudo. }
[Annamli: 6]

O dɔo Alquraana ko tellinaado ummorde ka Alla, kombo goondindo ko adii mbo e defte, Alla daali:

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ

لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: 37]

{ O Alquraana mbo wonah pekinteedo ko aldah e Alla, kono kay kombo goondindo ko adii mbo ko e defte, fencitde deftere nde sikke alah e mayre ummorde ka Joomiraawo. } [Yuunis :37]

AlQuraana tedduɔo o fencita ko buri heewde fiyakuuji di yahuud en luuruno e Annasaara en e nder diine mabbe, Alla daali:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْقُضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [النمل: 76]

{ Pellet o alquraana na daara e banii Israa*iil en ko buri heewde kobe luutranoo ko } [Annamli: 76].

AlQuraana tedduɔo o na soomi dallillaaji e burhaanji immindi hujja e dow yimbe hee fof fii anndude haqiiqaaji jowitiidi e Alla ceniido e diine Makko e njobdi Makko, Alla daali:

﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 27]

{ wollahi Men piyanii yimbe ben,e ndee Alqur'aan, kala misal,belajo'o, be waajitora } [Ajjumur: 27]

Toowdo On daali:

﴿...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89]

{ Min tellini e dow maa deftere feinde kala huunde e peewal e yurmeende weltaare woodani juulbe be } [Annahli : 89]

ALQuraan tedduɔo o na jaaboo naamne buy himmude heewde beemnuɔe miliynji yimbe, alquraana na hollira hono Alla tagiri kammuuji e leydi, O

daali:

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: 30]

{ Mbele heefereebe be yi*aani won de kammuuji e leydi ndii ngonno ko takkonsirdi, Min takkatidi, Min mbađi ummmaade ndiyam kala huunde wuurnde, mbele be ngoondintah? } [Al Anbiyaa :30]

Hono Alla tagiri nedđo, Alla daali:

﴿بَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ۗ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: 5]

{ Eehey mon yimbe si on cikkatiima ummital pellet ko Minen tagii mon e leydi refti Min mbađi mon tobbe refti Min mbađi mon heddere refti Min mbađi mon husere timmunde tagoore e nde timmaani tagoore ngam Min banngina on,Min^o iifbna e ranngaaji ko Min kaaji haa e lajal kappaado refti Min njaltina mon suko refti njottađono satteende mon, ina e mon sankatoobe ina e mon ruttateebe e nguurndam burđam jaasde haa o waasa anndude caggal duum hay huunde,hađa yi*a leydi ndi hondi woni maayndi so Min telliinii e mayri ndiyam ndi dilla ndi fuufa puđi ndi fudna e kala teeltungel lobbel } [Al Hajji: 5]

ko hoto woni battane makko, holko woni njobdi bonnuđo e peewnudo caggal dam nguurndam ? daliilaaji ko faati dam nguurndam jantanooma e tonngoode(20) mbele goodal aduna ko nih tan ardi wolla hongal jogii faandaare teddunde ?Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

{ Mbele be ndaaraani nguu laamu teddungu nder kammuuji e leydi e ko Alla tagi e kala huunde, na hasoo nde lajal mum en bađato honde yeewtere caggal

dum 6e ngoondinta } [Al Aaraaf: 185]

Alla daali:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115]

{ Mbele on cikku ko fijirde wafi tagmi mon, mbela mbela on cikku pellet on nduttataako e Amen } [Al Muuminuun : 115].

AlQuraana teddufo o na reena haa hannnde e demngal mbo tellarii ngal, Alla daali:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]

{ Ko Minen tellini Alquraana ko Minen reenata mbo } [Al Hijri :9]

Hay harfeere wootere ustaaki e mammba, na jommbi nde yanata e mammba beandiral ma baylagol, Alla daali:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]

{ Mbele 6e teskataako Aluraana, sinde ummino ka wonah Alla mabe taw e mayre luural keewngal. } [Annisa: 82].

Kombo muulaaf o mbo saraa, kombo deftere teddunde, ronkinde haannde janngede wolla hetteede maa janngude maana mayre eggaande faade e demde goo, ko hono noon sunna nulaafu Muhamed yo o his, e siira mum deenaafu o egga fotde no habroobe hoolaabe eggiri, kombo muulaafu e demngal arab ngal Nulaafu haalatnoo, hombo eggaa faade e demde keewde,al quraana teddufo o e sunna Nulaafu ngonni iwirde wootere wonande nyaawooje islaam e sariyaaji mum, islaam nanngirtaake pirlitale yimbe askintoobe e mammba, kono islaam nanngirtee ko: Wahyu deenaafu o, oon woni alquraana e sunna Annabiyanke, Alla daali:

﴿إِنَّا الَّذِي نَكْفُرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهَا الْبَطِلُ مِثْبَاتِ بَيْنَيْدٍ يَهُوَ لَا مِثْلَافٍ لَهُ تَنْزِيلًا مِّنْ حَكِيمٍ

﴿حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾ [فصلت: 41-42]

{ Pellet been yeddufe alquraana nde mbo ari e mum en, pellet konde deftere teddunde, meere aratah e mayre wonah yeesa mayre maa caggal mayre, konde tellinaande ummorde ee'a jettaafu..} [Fussilat :41-42]

Alla daali ko faati e sunna Annabiyanke wonde kombo wahyu ummorde ka

Alla:

﴿...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: 7]

[Ko Nulaado addani on nanngée dūm, ko o hađi on ngaccee, kulee Alla sabu ko O cattudo lepte.] [Al Hasri : 7].

29. Islaam na yamira diggan de e jipnaabe hay sibe ngonah juulbe e wasiyanaade sukaabe.

Islaam na yamira moyʼande jipnaabe, Alla daali:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آقِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23]

{ Alla ʼaawi nde on ndewatah si wonah Makko, moyʼon e jipnaabe, si gooto e mum en naywii wollo kambe dīdo fof woto wiibe uf woto wiib eh haalanbe haala tedduka.} [Al Israa: 23]

Alla daali:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: 14]

{ Min mbasoyiimo neddo jipnaabe mum yummakko saawi mbo e lohre e dow lohre,e enteede makko woni e nde duubi dīdī,nde njettataa Mi e jipnaabe ko e Am de woni wattindorde. } [Luqmaan : 14].

Alla daali:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُمُ امُّهُنَّ وَهًا وَوَضَعَتْهُنَّ وَهًا وَحَمْلُهُنَّ وَفِصَالُهُنَّ أَثْوَنُ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنَا عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّهُ هُوَ أَصْلِحُ حَلِيفٍ ذَرِّيَّةً يُبْنَىٰ إِلَيْكَ وَإِيْمَانًا مُّسْلِمِينَ﴾ [الأحqاف: 15]

{ Min mbasayii neddo yo moyʼu e jipnaabe mum, yumma makko saawii mbo e tampere o jibini mbo e tampere,caawgol makko e entugol makko ko lebbi 30,haa nde o yottii cemmbes makko o yottii capande nayi hitaande,o wii Joom am lonngin am nde njettat mi dokkema Maa de ndokkuđa e dow am e

jipnaabe am e nde ngollat mi golle mojje belatde Ma peewnanaa mi ge'ol am, mi tuubii tigi faade Ma pellet ko e juulbe njeyaa mi } [Al Ahqaaf: 15]

Umiiima e Abuu Hurayrata yo welu Alla won e maako, o wii: Gorko arii Nulaado o wii : Nulaado hombo potmi burde mojjinande gon digal? O wii: neene ma, o wii e hombo? O maaki : neene ma, o wii refti hombo? O maaki: neene ma, o wii refti e hombo ? O maaki : Baaba ma.Sahiih Muslim.

Ngol jamirgol wasiyanaade jipnaabe foti kobe juulbe wolla ngonah.Ummaade e Asmaa biy Abuu Bakri o wii:(Neene am arii hombo woni cirkoowo e yonta Quraysi en e aadi mum en tuma ndebe aadandirnoo Annabi yo o his, hombo wondi e bi'ddo makko,naamniimi Nulaado mbiimi:Neene am arii hombo reerdi,mbela mi jokka mbo?O maaki eey jokku neene ma).Sahiih Buhaari.Haysi jipnaabe be tampii etaade waylude suko o ummaade e islaam faade e keefeeru, Islaam na yamira nde o waasata doftaade be o jokko goondinde Alla o diggana be, o wonda e mum en gondigal lobbal, Alla daali:

﴿وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: 15]

{ Si be tiidnorii ma fii sirkangol Lam e ko a alanaa dum ganndal, wata a dofto be; wonndir e mabbe ka aduna doo moy'ere. Jokku laawol on ruttiido e Am. Refti ko ka Am woni ruttorde mon, Mi yeetitoo on, ko gollaynodon.} [Luqmaan : 15]

.Islaam hadfatah juuldo nde o digganta badiibe mbo sirkube, wolla be ngonah badiibe tawde be ngonah habdiibe makko, Alla daali:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]

{ Alla hadaani mon be kabaani e mon be e diine be njaltinaani mon galleeji mon,nde diggantobe nuundon faade e mum en,pellet Alla na yidi nuundube. } [Al Mumtahina: 8]

Islaam na yamira wasiyanaade bibbe buri mawnude ko islaam yamirta jipnaado ko nde o jannginta bibbe mum hakkeegi Joom mum en hono no Nulaado mo jam e kisal maakiri biy baaba makko Abdullaahi Ibnu Abbaas yo weluya Alla won e makko:Eey suko wolla aan cukalel mbele mi

anndintaama konngudi di Alla nafirat ma? Mbiimi eey kay. O maaki: reen Alla, Alla reen ma, reen Alla tawaa Mbo yeesa ma, anndu Alla saanga neema, Alla wallu ma saanga satteende, si a toriima toro Alla, si a wallaniima wallina Alla. Ko Ahmad fillii mbo 4/287. Alla yamiri jipnaabe ndebe nganndinta bibbe mum en ko nafatabe e fiyaaku diine mum en e aduna mabbe Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: 6]

{ Eehey mon goondinbe ndeene ko*e mon e koreeji mon e yiite docate manngge ko yimbe e kaaye ina e dow henge malaykaaji tekkudi cattudi di ngoopatah ko Alla yamaridi te hodi ngolla ko Alla yamiridi. } [Simoore Attahriim: 6]

Ummaade e Aliyyi yo weluya Alla won e Makko e konngol Alla: Ndeenee ko*e mon e koreeji mon e yiite. O wii : Ne*eebe njanngineebe. Nulaado mo jam e kisal woni e dow mum yamiri nde jiknaado jannginta biy makko juulde, ngam o nehoo heen, Nulaado maaki: Njamiree bibbe mon juulde sobe njottiima duubi jeedifi: Abu Daawud. Be maaki kadi: Onon fof ko on aynaabe, onon fof ko on naamnitteebe, Imaam ko gaynaako, te ko naamnitteedo ngaynateeri makko, gorko ko gaynaako e galle mum, ko naamnitteedo ngaynateeri makko, debbo ko gaynaako e suudu jom galle makko, ko o naamnitteedo, ko o aynatno ko, liggatoofo ko gaynaako e jawdi kiliifa makko, ko naamnitteedo ko o ayninaa ko, onon fof ko on aynaabe te ko on naamnitteebe ko ngayninafon ko. Sahiih Ibnu habbaan 4490.

Islam yamarii jipnaado nde o nafqata bibbe makko e mbootu makko, en jantinooma dum e tonngoode(18) Nulaado yo O his holliti bural nafqude bibbe O maaki: Diinaar burfo labeede woni diinaar mbo gorko nafqi mbootu mum, e diinaar mbo o nafqi e daaba mum e laawol Alla e mbo nafqi e wondiibe mum e laawol Alla. Abu Qillaba wii: o adariima mbootu makko, refti Abu Qilaada wii: alah burfo gorko nafqoowo e mbootu mum tokooso njobdi Alla nafabe e duum e yondinabe. Sahiih Bukhaari 994

30. Islaam na yamira nuundal to bannge bolle e kuude hasindo ko won dude a'be.

Alla ceniido O na sifarii nuundal e golle mum e jiiigol mum hakkunde jiyaa'be mum, O woni ko e laawol peewngol ko O yamiri ko e ko O hadi ko, e ko O tagi ko e ko O hoddiri ko Alla daali:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]

{Alla seediima wonde pellet Alla alah si wonah kamko, e malaykaaji e jom en ganndal, Hombo darii e nuundal, deweteedo alah si wonah kamko, kamko woni pooldo mbo fooletaake ee'udof.} [Aali Imraan: 18]

Alla na yamira nuundal, O daali:

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...﴾ [الأعراف: 29]

[Maaku joom am yamarii nuundal] [Al Aaraaf: 29]

La Nabiyaam-rāmbāfāa la Tēn-tuumbā -puusg la tulgrbe b yīnga- b waa ne tēeg turga, Wēnd yeelame A Naam zēkyā:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...﴾ [الحديد: 25]

{wollahi tigi Min neliri Nulaabe amen banngudi, Min tellini e mum en deftere e peesirde ngam yimbe be ndarna nuundal.} [Al Hadiid: 25]

Peesirgal woni nuundal e konngi e golle. Islaam na yamira nuundal to bolle e golle hay si ko wondude e a'bye, Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 135]

{Eehey mon goondibe ngonee darantoobe nuundal seedatoobe sibi Alla hay si wonii e dow ko* e mon wolla e dow jipnaabe wolla badiibe mon, si o wonii gala wolla baasdo ko Alla buri haandude e mum en, wotee ndewee belaade haa mbaason nuundude, si on karlii maa duurnidon, ngannde pellet Alla na

humpatti ko ngollaton ko} [Annisaa : 135]

Alla daali:

﴿...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]

{ Woto ngan̄gu yimbe faliibe gaa e masiide Alla hormaande nde had mon nuundude, mballandiree e diggere e kulol Alla, woto mballandiree e bakkaat e ngāngu, kulee Alla, pellet Alla ko cattudo lepte.} [Al Maa*ida: 2].

Alla daali:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: 8]

{ Eehey mon goondinbe ngonee daraniibe Alla seediriibe nuundal, woto āde yimbe dū mon nde mbaasaton nuundude, nuunde ko d̄uum buri badaade kulol Alla} [Al Maa*ida : 8]

Mbela ad̄a tawa laabi yimbe ma e diineeji mum en hono ngol jamirgol seedaade goongo e haalde goongo hay si wonii e dow fittaandu ma wolla jipnaabe ma maa boom baddibe ma, yamirde nuundal wondude e gāa wolla e gid̄o.Nulaado yo jam e kisa won e mum na yamira nuundal hakkunde sukaabe.Ummiima e Aamir o wii: Mi nanii Nuumaan Ibnu Bassir yo weluya Alla won e mum en,hombo woni e minbar,hombo wiya:Baaba am okkii lan dokkal,Amarata Bint Rawaahata wii:mi weletaake haa ceetna Nulaado,o ari e Nulaado wii:mi okkii biy am e Amarata Bint Rawaahata dokkale,o wii yomi ceetnuma mi aan Nulaado owii:(A okki bibbe ma fof hona dum?)O wii:alah Nulaado maaki:(Kulee Alla nuundee hakkune bibbe mon)O wii:o rutti dokkal makko ngal.Sahiih Bukhaari 2587.

Wadi noon ko fiyakuuji aade e dowlaaji ndarataaka si wonah e nuundal, hoolaare hebetaake wonande yimbe e diine mum en, ȳiiy'am mum en, gēol mum en, jawle mum en e kodorde mum en si wonah e nuundal, ko dum nde heeferbe makka tampini juulbe, Nulaado yamaribe yobe per faade Habasa, sabu na woodi toon Laamdo nuundudo mbo hay gooto toonyetaake e leydi makko hee.

31. Islaam na yamira labbinde faade tagu nguu fof, na nodda faade jikkuuji laabfi, e golle laabde.

Islaam na yamira moy'ande jiknaabe, Alla daali:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ [النحل: 90]

{ Pellet Alla na yamira nuundal e moy'inde e tottude e okkude badiido....}
[.Annahli: 90]

Alla daali:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

﴿آل عمران: 134﴾

[Nafqoobe saango yaajeende e saango bittere moftoobe tikkere, yaafatoobe yimbe be, Alla de na yidi moy'yinoobe.] [Aali Imraan: 134].

Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki:« Allaahu On Farlii moy'ere e dow kala huunde. Si on waray moy'yinee warugol ngol. Si on hirsay moy'yinee hirsugol ngol. Yo gooto e mo'on welnu labi makko ki o fooftina ko o hirsata kon »Sahiih Muslim 1955.Islaam na nodda faade e jikkuuji labaaƙi e golle labaaƙe, Alla daali e sifaadse Nulaaƙo yo jam e kisal ngon e makko:

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: 157]

{ Rewatnoobe Nulaaƙo Annabi mboƙe tawatnoo na winndaa to mum en ka Tawraata e Injiil hombo yamirabe ko lobbi O hadabe ko boni O dagnabe ko laabi O harminanabe ko tunwi O tellinanabe caƙeele mum en e tonngi mum en gonnooƙi e mumen, been goonɗinbe mbo noon be cemmbini mbo be mballi mbo be ndewi annore nde Min tellini, been ngoni malaabe be} [Al Araaƙ: 157]

Be maaki kadi:Aan Aaysa Alla ko newiido hombo yidi newaare, hombo

okkira newaare ko O okkirtah e ɔ aadre e ko o okkirtah ko wonah duum.Sahiih Muslim 2593.

Be maaki kadi:Alla harmanii e mon : salanaade yummiraabe e ubbude jiwbe tawa na nguuri, O hadi on kaari wii kaarii wii, e heewde naamni e yeebaade jawdi.Sahiih Bukhaari 2408.

Be maaki kadi:On naatatah Aljanna haa goondinon, on goondintah haa njidandiron, mbele Mi tinndintah mon huunde si on mbaadiinde njidondiron? caree salminaandu hakkunde mon.Sahiih Muslim 54

32. Islaam na yamira jikkuuji jettaadi hono goondude e tottirde hoolaare e nefde ko boni e hersude e jaambaraagal e tottirde e teddungale, wallude katajindo,e faabaade tampudo,e ɔ amminde keydudo,e mojjin de koddigal e jokkude endam e yurmaade kulle.

Islaam na yamira jikkuuji labaaɗi, Nulaaɗo yo jam e kisal won e mum maaki:Neldaa Mi tigi ko ngam Mi timmina jikkuuji labaaɗi.Sahiih Al Adab Al Mufrad 207.

Be maaki kadi:Pellet mbo burmi yiɗde e mon e burɗomi badaade e jonnde ɔ ande darngo ko burɗo labeede jikku, burɗo tikkaneede e wodɗude jonde e Am ko heewbe haala e hebbinbe gabbude e mawnikiniibe, be min nganndii sarsaarin e mutashaddiquun hol ko woni mutafayhiqun? O maaki ko: mawnikiniibe.Assilsilatu Assahiihatu 791.

Ummiima e Abdullaahi Ibnu Umara yo weluya Alla won e mum en, o wii: Annabi mo jam e kisal woni e mum, laatanooki jom pankare, o wonaana pankaridnoodo, Hombo maakatno: Ina jeyaa e burbe labeede burɗo labeede jikku.Sahiih Bukhaari 3559.

E ko wonah dee aayeeje e jolole tinndinooje wonde islaam na hirjina e jikkuuji tedduɗi e golle labaaɗe e mbaadi kuubtadinndi.Islaam na yamira

goondude, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki:Mi wasiyiima mon goongo,sabu goonga na feewna e diggere diggere na feewna faade e aljanna, gorko seeratah goondo na faando goongo haa winnde to Alla goongiyanke.Sahiih Muslim 2607.

Na jeyaa e ko Islaam yamirta ko: Tottirde hoolaare Alla daali:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ﴾ [النساء: 58]

{Pellet Alla na yamira on nde tottirton hoolaareeji faade e jom mum en.}
[Annisaa : 58]

Islaam na yamira nefde ko boni, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki:Tato na joggi e Alla walludebe: O inntii heen: desdo jidfo burnaade.Sunanu Attirmiiji 1655.

Ina jeyanoo e du*aa Makko yo jam e kisal won e mum:Aan Alla mbedfa toro Ma peewal e kulol Alla e tewaade bone e yondinaade.Sahiih Muslim 2721.

Islaam na yamira wonde kersoowo, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki:Hersude ko jam tan addata.Sahiih Bukhaari 6117.

Be maaki kadi:Kala diine na jogii jikku, woni jikku islaam ko kersa.Ko Bayhaqi yaltani mbo nder su*abi limaana 6/2619.

Ina jeyaa ko islaam yamirta: Jaambaraagal, ittaama e Anas yo Alla wele mbo, o wii:Nulaado mo jam e kisal ngoni e makko burnoo yimbe kay burnoobe suusde furibe wonde dokko, yimbe madiina paayiina, Nulaado woni gadiido e puccu.Sahiih Bukhaari 2820.

Nulaado hombo moolotono Alla e kulol reedu, hombo maakatno:Aan Alla mbida moolo Ma e kulol reedu.Sahiih Bukhaari 6374.

Na jeyaa e ko Islaam yamirta ko: Tottirde e teddungal, Alla daali:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261]

{Nafkoobe jawle mum en e laawol Alla mba*i kono abbere fudnunde butaali jeedidi kala heen wutaandu fof na soomi teemedere abbere, Alla na sowana Mbo O haajani, Alla ko jaacfo ganndal..} [Al Baqara : 261].

Jikku Nulaado wonno ko teddungal, ittaama e Ibnu Abbaas yo weluya Alla won e makko, o wii:Ko Nulaado burno yimbe be fuldude, ko e lewru koorko fof o burnoo won de dokko tuma nde Jibriil hawrata e Makko,Jibriil na hawratnoo e makko kala jemma ramadaan haa mbo huncoo,Nulaado aarnda mbo alquraana,si Jibriil hawrii e Makko hombo wonatno burdo kenal soy soy labeede.Sahiih Bukhaari 1902.

Na jeyaa ko islaam yamirta wallude katajindo e faabaade cattiraado e amminde keydufo e labinde koddigal e jokkude endam e newanaade kulle de.Ummiima e Abdullaay Ibnu Umar yo welu Alla won e mum en wonde gorko gooto naamniima Annabi mo jam e kisal woni e mon, o wii: Hombo islaamuji di buri labeede ? O maaki: amminde aamdu calmaa mbo nganndufa e mba a anndah.Sahiih Bukhaari 12.

Be maaki kadi:Gorko gooto na yahatno e laawol o domdi sanne, o hebi woyndu, o telli e hendu o yari refti o yalti, tawi rawaandu na toon na laha hondu aama lesdi sabu domka, gorko o wii: Ndu rawaandu ndu domdari no domdirnoo mi, o hebbini kuffu makko ndiyam, refti o nanngi e hunduko mayru, o yarni rawaandu ndu, Alla yetti mbo o yaafii mbo. Sahabaabe mbii emin jogii e kulle hee baraaaji? O maaki: eey, kala ko wadi heere heccere na wadi baraaaje .Sahiih Ibnu habbaan 544.

Be maaki kadi:Jahanoowo mbo jom galle mum maayi e miskiin wa*i kono bafoowo jihaadi e laawo Alla wolla dariido juuloowo jemm e alawma.Sahiih Bukhaari 5353.

Islaal na teentina hakkeeki endam na waddina jokkude endam, Alla daaliã:

﴿التَّيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝﴾

[الأحزاب: 6]

{ Annabi buri haandude juulbe e pittaalii mum en, suddiibe makko be ko yummiraabe mum en, jom en endam yogo e mum en buri haandude e yogo e deftere Alla hee gaa e juulbe e ferbe, si wonah de mbadanton heedbe mon mofy'ere, dum laatiima na winndaa e deftere hee } [Al Ahjaab: 6]

O jeertini tay'de endam O sinndindiri dum e bonannde e nder leydi hee, Alla daali:

﴿قَهْلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ

اللَّهُ فَأَصْحَابُكُمْ وَأَصْحَابُ آبَائِكُمْ وَأَصْحَابُ آبَائِكُمْ ۗ﴾ [محمد: 22-23]

{ Mbela si on nduntiima yaama bonnon e nder le leydi tay'on endam mon dam tay'on tay'on (22) Ko been ngoni be Alla huɗi O fahɗiniɓe O wumni gite mum en (23)} [Muhammed: 22-23]

Nulaaɗo yo o his maaki: (**Naatah aljanna tay'oowo endam**)Sahi ih Bukhaari 2556.

Endemeeje de na foti reeneede : Jipnaabe e musibbe e banndiraabe rewbe e bappa en gorgilaabe e kaawiraabe e yummiraabe sawndiibeIslaam na tentini hakke koddiijo hay si o wonii keefeero, Alla daali:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ

ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ

كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36]

{ Ndewee Alla wotee ndenndinee Mbo e hay goota, moy'ye e jipnaabe mon e badiibe mon e Alyatimeebe e miskineebe e koddiijo badiidoɓ e koddiijo deestiido e gondiido sera am e ɗatniido e jeyal juude mon, pellet Alla yid'ah y'aa'yoowo basatooɗo.} [Annisaa : 36].

Be maaki kadi:jibriil seeraani na wasiyoo Mi koddiijo haa cikku Mi ma ronnu mbo.Sahi ih Abii Daawuud 5152.

33. Islaam dagnii laabɗi e ʾaamdu e njaram, o yamiri labbinde bernde, banndu e galle, ko dum saabii O dagni dewgal hono O yamirirnoo Annabaabe yo be kis, hobe njmiratnoo ko labaa.

Islaam na ʾaamdu e njaram laabaadi, Nulaaɗo yo jam e kisal won e mum maaki:« Alla ko Laabɗo Mo Jabataa si wanaa laabu-dum. Allaahu On Yamiriri

muumini en kon ko O Yamiri Nulaabe ben O Daali:

[Ko onon yo Nulaabe, ُ aamee laabudfi dīn gollon [golle] moy'ye].[Al Mu'minuun: 51].

O Daali kadi:

[Ko onon yo muumini en, ُ aamee immorde e laabudfi dī Men Arsiki on) ». [Al Baqarati: 172].

Abuu Hurayrah beyditi:Hooti Nulaado on janntii gorko juutinaynoodo datngal, sirnganiido punndudo ; mo no forta juude mun ka asamaanu o wi'a: Ko an yo Joomam, ko an yo Jomam. Tawa non ُ aameteet makko on ko harmudo, njaram makko dam ko harmudam, comci makko dīn ko harmudfi, o ne'iraama ko harmi, hol no oo doo jaabinirantee ?Sahih Muslim 1015.

Alla daali :

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32]

{ Maaku ko hombo harmini cudaari Alla wonande jiyaaabe Makko e dagiidi e arsuka, maaku diin ko fii been gondinbe e nguurndam aduna laabudfi nande darnga, ko hono nih Min pirtirta aayeeje wonande yimbe anndube"} [Al Araaf: 32]

Islaam yamarii labbinde bernde, banndu e galle, ko dum saabii mbo dagni dewgal, hono no mbo yamiriri Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en, kambe hoobe njamira ko moy'yi, Alla daali:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: 72]

{ Alla wadani on ummaade e ko*e mon kube O wadani on e kube mon hee sukaabe e njaatiraaabe O yedi on dagiidi mbela ko meere gondinton e dokke Alla dii njeddaton } [Annahli: 72]

Alla daali:

{ E comci Ma labbin (4) Fer goopi badfinooji lepte (5) } [Al Mudassar: 4-5]

Be maaki kadi:Naatatah aljanna mbo gabbel fotde jarra e mawnakinaare woni e bernde mum, gorko gooto wii: Gorko na faalee nde comci mum e pade mum ngonata labaade, O maaki Alla ko joodfo ko jiddo njoodndam, mawnakinaare ko yeddude goonga e yawaade yimbe.Sahiih Muslim 91.

34. Islaam harmanii lasliiji karminaadi hono sirku,keefaraagu,rewde sanamuuji,haalde e Alla ko a anndah,warde sukaabe,warde fittaandu harmundu warde,bonnude e nder leydi,mbilewu,pankare banngude e ko wirnii, jinaa,e golle luuti en? O harmini riba,e nyaamde jiiba e ko hirsanaa sanamuuji,O harmini aamde mbabba tugal e tuundiiji e sobeeji,O harmini aamde jawdi alyatiime, e ustude peese e betu,O harmi tayde endam. Annabaabe e Nulaabe fof na hawri e harmude dii kafaafi.

Islaam na harmini asli karminaadi hono renndinde Alla e tanah Makko, keefereegal, rewde sanamuuji e haalde e Alla ko a anndah e warde sukaabe, Alla daali:

﴿فُلْتَعَالُوا أَتَلَّ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ مَعَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّا مَلَاقِي تَحْنُرُّرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الانعام: 151-152]

{ Maaku:"Aree mi janngana on ko Joom mon Harmini e mon:ko nde kafidoton e Makko huunde wafanon jibimbe mon ben moyyere wota on mbar fidbe mon be sabu kulol immorde e baasal.Ko Minen Arsikata on e

kambe.Wata on badto pankare den ko fee'i e majje e ko wirnii.Wata mbar fittaandu ndu Alla Harmini si wanaa e goonga.Ko dum moodon O wasiyii on belajoo,on haqqilay(151) Wata on badto jawdi alyatiimi si wanaa taw ko no buri moy'irde, haa o yottoo kellefuyee makko. Timminiree betirde den e mandikirde (peesirde) no nundiri. Min pawata fittaandu si wanaa ko ndu hattanata. Si on kaala nundee hay si ko e hoore jom-badtdal. Ahadi Alla ndin hunnon. Ko dum moodon woni ko O Wasiyii on; belajo'o, on annditay.(152)} [Al An'aam: 151-152]

Alla daali:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْأَنۡمَآءَ الۡبَغِيۡغِيۡرِ الۡحَقِيۡقِ ۚ وَأَنۡ تُشۡرِكُوا بِاللّٰهِ مَا مِۡيۡزَ لِنَبِيِّۖهِ ۖ سُلۡطٰنًا ۚ وَأَنۡ تَقۡوُلُوۡا عَلٰٓى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۳۳﴾﴾ [الأعراف: 33]

{Maaku Alla harmini ko pankare ko fee'i heen e ko wirnii e bakkaat e bewre ko aldah e goonga e nde ndennditon Alla ko O tellinaani e mum daliil e de kaalaton Alla ko on nganndah} [Al Aaraaf: 33].

Islaam harmini warde fittaandu hormaandu, Alla daali:

﴿وَلَا تَقۡتُلُوا الۡنَفۡسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ ۖ اِلَّا بِالۡحَقِّ ۚ وَمَنۡ قُتِلَ مَظۡلُومًا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لَوٰلِيۡهِ ۖ سُلۡطٰنًا ۚ فَلَا يُسۡرَفُ فِىۡ اَلۡقَتۡلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنۡصُورًا ﴿۳۴﴾﴾ [الإسراء: 33]

{Wote mbare wofittaandu ndu Allah harmini [warugol],si wonaa sabu hakkee.Mo too'aama waraama,Men wadani hee dube e makko ben doole wota non o fantin ka warugol.Pellet Kanko o wonii wallaado.} [Al Israa: 33].

Alla daali:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفۡسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ ۖ اِلَّا بِالۡحَقِّ ۚ وَلَا يُزۡنُونَ ۚ وَمَنۡ يَفۡعَلۡ ذٰلِكَ يَلۡقَ اٰثَمًا ﴿۶۸﴾﴾ [الفرقان: 68]

{e been be noddatah wondude e Alla deweteedo goo be mbaratah fittaandu ndu Alla harmini yo ndu ware si wonah goonga be njinatah, kala badfa duum heba bakkaat..} [Al Furqaan: 68]

Islaam harmini warde fittaandu hormaandu, Alla daali:

﴿وَلَا تُفۡسِدُوا فِى الۡاَرۡضِ بَعۡدَ اِصۡلٰحِهَا... ﴿۵۶﴾﴾ [الأعراف: 56]

{wotee mbonne leydi caggal moy'inde ndi.} [Al Aaraaf: 56]

Alla daali hombo habra gaa e Annabi Su*aybu yo kisal won e Makko:

﴿وَالَىٰ مَدْيَنًا حَاهُمْشُعَيْبًا قَالَ يَقُومُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هُمْ أَقْوَامٌ أَكْثَرُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾﴾ [الأعراف: 85]

{ Eey mon yimbe am on alah deweteedo mbo wonah makko arii e mon ko banngudi ummorde ka Joom mon timminee betu e peese wotee ustanee yimbe be gede mabbe woto on mbonnu e nder leydi he caggal ndendi feewnaa ko duum buri moy'yannde on si on laatiima goondin be} [Al Araaf: 85].

Islaam harmini mbilewu, Alla daali:

﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾﴾ [طه: 69]

{Bugo ko woni kon ka ̣aamo maada dum moday ko be moy'yini kon, pellet, ko be moy'yini kon ko pewje mbile bileejo on maletaake nukku woo ka o ardi.} [Taahaa : 69]

Be maaki kadi:Ndeentee jeedifi kalkooji, be wii : Aan hodi woni diin? O maaki : Sirkande Alla, mbilewu, warde fittaandu hormaandu ko aldah e goongo, ̣aamde ribaa, ̣aamde jawdi alyatiime, dogde ̣ande jihaadi e takkude juulbe rewbe goondinbe welsandiibe kobe takkaa ko.Sahiih Bukhaari 6857.

Islaam harmini pankare banngudi e wirniidi e jinaa e luutiyankeegal, dum jantanooma ko adii e huunde ko aayeeje jantii holli wonde islaam harmanii riba, Alla daali:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا فَأَدْنُوا لِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَسُؤْلِهُ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾﴾ [البقرة: 278-279]

{Eehey mon goondinbe kulee Alla accon ko heddi ko e riba si wonii ko on muuminiina (278) Si on wadaani kolliree hare ummaade e Alla e Nulaadum, si on tuubii woodanii ko*e jawdi mon on too'atah on too'etaake. (279)} [Al Baqara :278, 279]

Alla sappariraani jom goopol hare hono no O sappirani jom riba,sabu riba

na soomi yirbere galleeji e kodorfe e jawle e pittaali. Islaam harmini ʾaamde jiiba e ko hirsira sanam e ko nanndi heen O harmini ʾaamde teew mbabba ngirja, Alla daali:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطْيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ...﴾ [المائدة: 3]

{Harminaama e mon jiiba e yiyam e teew mbabba tugal e ko daknara ko wonah Alla e deddingol e lukkangol janngol ummorde dow e juwangol e ngol ponyi ʾaami si wonah ngol kirsudon e kirsangol e sanam e nde dabbirton njeɗu ngennduko Ajlaam duum ko faasiqaagal} [Al Maa*ida :3]

Islaam na harmini yarde sangara e denndaangal sobeeji e tuundiiji, Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُرْوِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]

{Eehey mon goondinbe pellet sangara e wure kaaye debe ndarnatnoo sara Kaaba e ngenndu- won ko sobe ko e golle seytaane jeya ndeenee dum ngam maledon (90) Pellet seyataane faalaa ko libde hakkunde mon nga'ngu e tikkere nder sangara e wure o faddoo mon e jantaade Alla e juulde, mbela hodon kadto? (91)} [Al Maa*ida :90, 91].

Soggaama e tonngoode (31) jantagol kabrugol Alla sifaaji Nulaado mo jam e kisal woni e mum nder Tawreeta wonde hombo harmini e mum en sobeeji, Alla daali:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...﴾ [الأعراف: 157]

{Rewatnoobe Nulaad o Annabi mbofe tawatnoo na winndaa to mum en ka Tawraata e Injiil hombo yamirabe ko mojji O hadabe ko boni O dagnabe ko

laabi O harminanabe ko tunwi O tellinabe cafeele mum en e tonngi mum en gonnoodi e mumen, been goondinbe mbo noon be cemmbini mbo be mballi mbo be ndewi annore nde Min tellini, been ngoni malaabe be} [Al Araaf: 157]].

Islaam harmini 0 aamde jawdi alyatiima, Alla daali:

﴿وَأْتُوا النِّسَاءَ بِأَمْوَالِكُمْ لِمَا تَرَبَّطُوا بِالْحَيْبَتِ بِالْظَّيْبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا

كَبِيرًا﴾ [النساء: 2]

{Totte alyatimeebe jawle mum en wotee ngostore ko sobi laabɗum, wotee 0 aamee jawle mum en faade e jawle mon, pellet duum woniino bakkaat mawɗo} [Annisaa: 2]

Alla daali:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النِّسَاءِ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

﴾ [النساء: 10]

{been 0 aamroobe jawdi alyatimeebe dow too 0 ange, pellet kobe 0 aamata ko e deedi mum en ko yiite, mabe ka yiite huɓɓoowe} [Annisa : 10]

.Islaam harmini ustude peese e betu, Alla daali:

﴿وَبِئْسَ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳ أَلَا

يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝۴﴾ [المطففين: 1-4]

{Halkaare woodanii ustoobe peese e betu (1) been betnatoobe e yimbe be dabba timminaneede (2) Sibe betaniibe wolla be peesanibe be usta (3) Rē Mbela been cikkaani mabe ummine 0 alngu darnga (4)} [Al Mudaffifiin :1-4]

Islaam na harmini kadi tay'de endameeje ɗum jantaama ko adii e tonngoode 31 e aayeeje e hadisaaji tinndinooji duum, Annabaabe e Nulaabe fof na hawri e harminde dii karminaadi.

35. Islaam na haɗa jikkuuji bonɗi hono fenaande e fuuntude e janfaade, hodaade, njanfa, haasidaagal, hodo bonngo, nguyko bewre e too 0 ange e kala huunde soɓnde.

Islaam na hada jikkuuji bondfi e mbaadi kuubtadinndi, Alla daali:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [القمان: 18]

{Wata fal yimbe ben yeeso maa ngon, wata a yahru ka leydi° aay'agol. Pellet, Alla yidaa kala° aay'otoodo mantoo} [Luqmaan : 18]

Be maaki kadi: Pellet mbo burmi yidde e mon e burdomi badaade e jonnde° ande darngo ko burdo labeede jikku, burdo tikkaneede e wodfude jonde e Am ko heewbe haala e hebbinbe gabbude e mawnikiniibe, be min nganndii sarsaarin e mutashaddiquun hol ko woni mutafayhiqun? O maaki ko: mawnikiniibe.fAssilsilatu Assahiha 791.Islaam na hada fenaande, Alla daali.

﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ [غافر: 28]

{Alla feewnatah oon burtindo penoowo} [Gaafiri: 28].

Be maaki kadi: Ndeene fenaande sabu fenaande na nawma e faajiraagal faajiraagal na feewna e yiite, gorko seeratah na fena na faando fenaande haa o winnde ka Alla ko o penoowo.Sahiih Muslim 2607.

Be maaki kadi: Maande naafiye ko tati: Si o yeewtii o fena, si o fodii o lunndo, si o hoolaama o janfoo.Sahiih Bukhaari 6095.

Islaam na hada fuuntude.Arii e hadiis wonde Nulaado Alla yo jam e kisal ngon e makko wirtiima gennduwel° aamde o naatni junngo makko e hengel,leppeendi hebi pedeeli mum,o maaki:Ko dum woni jom° aamdu? o wii:Ko tobo hebindu aan nulaado Alla,O maaki:Ko hadmaa dum wafde e dow° aamdu he haa yimbe be nja*a dum,kala puuntudo amen jeyaaka e amen.Sahiih Muslim 102.

Islaam na hada hodo e njanfa, Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأَنْفَال: 27]

[الأَنْفَال: 27]

{Eehey mon goondinbe woto njanfadi Alla e Nulaado njanfaon ko

koolnadon mon tawa hodon nganndi} [Al Anfaal: 27]

O daali:

﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد: 20]

{Ben hunnoobe ahadi Alla ndin, 6e firtataa ahodal(hoolaare).} [Arraad 20].

Nulaado mo jam e kisal woni na wiyatnoo konuui Makko sidi njalta:Kone woto on pantin wotoo njanfee wotee muusnee wotee mbaree cuklel.Sahiih Muslim 1731.

Be maaki kadi:Gede nay mbofe ngoni e mum wona naafiqe laabtufo, kala mbo gootel e majji woni e mum, wona e mum gedel e naafiqaagal haa o acca ngel: Si o tottaama hoolaare o njanfo, si o yeewti, o fena, si tottii aadi o janfo, si o dukdaama o yawta keerol.Sahiih Bukhaari 34.

Islaam na hada haasidaagal, Alla daali:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ

مُلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 54]

{ Mbela 6e kaasidoto yimbe ko Alla okkibe ko e bural Makko, Min tottii Ibraahiima defre e ulla Min tottibe laamu mawngu..} [Annisa: 54]

Alla daali:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَارِئًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ

مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۗ فَاعْمُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 109]

{ yidii heewbe e yimbe defte en ndebe nduttata mon caggal nde ngoondin don ngonton heeferebe haasidaabe to banngge mum en caggal de googna feeani on, njaafee njarladon haa Alla adda yamiroore Mum, pellet Alla ko kattando kala huunde } [Al Baqara: 109].

Be maaki kadi:Rubii faade e monaw dente ngadiide: Haasidaagu,tikkere laboore mi wiyaani laboore sukundu kono ko laboore diine, Mi woondarii mbo fittaandu am woni e Junno Mum, on naatatah aljanna haa ngoondinon on ngoondintah haa njadandiron, mbela hafratah on ko tabitinanta mon duum? caaktee salminaandu hakkunde mon.Sunanu Attirmijii 2510.Islaam na hada hodaade, Alla daali:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَّجْرُمٍهَا لِيَمُكِّرُوا فِيهَا وَمَا يَمُكِّرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا

يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ [الأنعام: 123]

{ Ko hono noon Min mbađi e kala wuro mawbe banndiiji manngo, haa be kodo e hengo, be kodotaako si wonah ko*e mum en kono be tinatah. } [Al Anaam : 123]

Alla habri wonde Yahuud en etinooma warde Masiih mo jam e kisal ngoni e Mum, be kodii kono Alla fewjanibe, Alla holliri wonde hodo bonngo ko e joom mum tan yanata, Alla daali:

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا

بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكْرُؤًا وَمَكَرُوا

اللَّهُوَاللَّهُخَيْرُ الْمَكْرِينِ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُوقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمِبَيْنَكُم فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ

تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ [آل عمران: 52-55]

{ Nde Iisaa so'unoo keeferaaku ngun e mabbe,o maaki:"Ko hommbo wallata lam e [diina] Alla [kan]?"Hawaaruyan'ko'en wi'i:"Menen ko men wallooŋbe [e diina] Alla [kan],men gomđinii Alla,seedo wonnde ko men jebbiiliibe" (52) Joomi amen, men gomđinii ko jipindaa kon, men jokkii Nulaado on. Winndu men e seediibe ben (53) Be fewji Alla kadi fewji.Ko Alla Buri Moyyude e fewjooŋbe ben (54) (Janto) nde Alla daalunoo:"Ko an yo Iisaa, Min ko mi hunnoowo ma e bamtoowo ma faade ka Am,e Labbinoowo ma e ben yeddube,(Mi) Wada ben jokkuŋbe ma e hoore ben yedduŋbe haa ,alnde Darngal. Refti ko faade ka Am woni runnatorde mon,Mi aawa hakkunde mon ko luutondirayno-đon e muudum. (55)} [Aali Imraana: 52-55].

Alla habri wonde yimebe Annabi Saalihi faalanoomo warde Mbo e hodo, be kodii hodo, Alla fewjanibe O yirbinibe kambe e yimbe mum en fof, Alla daali:

﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٩﴾

وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٧٠﴾ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبُهُمْ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ

{ be ngoondandiree ma on kollir dūm e koreeji makko, refti ma min mbiiyan keedo makko min ceedaaki halkaare koreeji makko, pellet ko min goondufe (49) be kodii hodo, Min kodii hodo, pellet ko Minen njirbini be kambe e yimbe mum en tawi be tinaani (50) } Ndaar hono wonnoo batte hodo mum en pellet Min njirbaniib e kambe e yimbe mum en denndaangal. (51)} [Annamli: 49-51.

Islam na hada nguyka, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki:Jinoowo jinatah saango nde o jinata nde hombo wini goondini, gujjoowo wujjatah nde o wujjata ndee tawa hombo goondini, jaroowo yaratah tumo nde o yarata nde tawa hombo goondini, tuubuya noon na holliraa caggal duum.Sahiih Bukhaari 6810.Islam na hada bewre, Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90]

{ Pellet Alla na yamira nuundal e moy'inde e okkude badiido na hada pankare e ko sariya a'i e bewre, hombo waajoo mon yaamo joo ciftaron.} [Annahli: 90]

Be maaki kadi:Alla wahyiima e Am yo on njankina, haa gooto e mon waasa yawtude keerol, gooto e mon waasa wasaade e dow goddo o.Sahiih abi Daawuud 4895.Islam na hada too'annee, Alla daali:

﴿...وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 57]

{ Alla yidah too'oobe.Aali Imraan } [Aal-Imraan: 57.]

O daali:

﴿...إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 21]

{ Pellet O malnatah too'oobe } [Al An Aam: 21]

O daali:

﴿...وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإنسان: 31]

{... Too'oobe be O heblani be lepte muusde.} [Al Insaan: 31]

Be maaki kadi:Tato noddaandu mum en ruttetaake: Imaam nuundufuɗo e koordɗo haa o humto e noddaandu too'aado hondu roonde e duule dame kammuuji uddite,Alla daala,e teddungal Am ma Mi wallu ma hay si ko caggal dummuna.Ko muslim yaltani mbo (2749) hombo tonnga e luural setta, e Tirmijiyu (2526) e luural setta, e Ahmad (8043) ko kanko woodani ngol konngol.Tumo nde Nulaado nulnoo Mu*aaj faade Yaman ngam o nodda faade e Islaam,o maaki:Reenta du*aaw too'aado sabu heedo alah hakkunde mammo e Alla.Sahiih Bukhaari 1496.Be maaki kadi:Kala too'ɗo ahdandiraado wolla o firti ahdi wolla o fawi mbo ko o hattanah wolla o nanngi e mum huunde ko aldah e mbelamma fittaandu ko Miin o hujjandirta ʻande darnga.Sunnaaji Abii Daawuud 3052.Islaam na hada kala jikku cobɗo wolla gollondiral gondungal e too'ange.

36. Islaam na hada gollandire jawdi gondufe e riba wolla lorla maa puunti wollo too'ange wolla ko addata boneeji e loruuji e mbaadi kuɓtadinndi e dow renndooji e biɓbe leydi e teelduɗo.

Islaam na hada gollandire jawdi gondufe e riba wolla lorla maa puunti wollo too'ange wolla ko addata boneeji e loruuji e mbaadi kuɓtadinndi e dow renndooji e biɓbe leydi e teelduɗo.Aayeeje e hadisaaaji karminooji riba e toonyange e puunti e bonande ka leydi benniina e tayre adiinde, Alla daali:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب:

[58

{ Lorloobe juulbe worbe e juulbe rewbe ko be paggitaaki been de ndoondiima fenaande mawnde e bakkaat bannguɗo.} [Al Ahjaab: 58].

Alla daali:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]

{ Kala golluɗo ko moyyi ko hoore mum o gollani, kala bonnuɗo ko e dow

mum artata, Joome wonah too^oowo jiyaabe be } [Fussilat :46].

Arii e sunna Nulaa^o mo jam e kisal woni e dow mum, o^o aawii wota a lor wota a lore.Sunan Abii Daawuud.Be maaki kadi:« kala on gomdindo Alla e ,jalaande cakkitiinde nden, yo o wowlu moyy^eere maa o dey^ya. Kala on gomdindo Alla e ,jalaande Sakkitiinde nden, yo o teddin koddiijo makko ngal. Kala on gomdindo Alla e ,jalaande Sakkitiinde nden, yo o teddin kodo makko on ».Sahiih Musim 47.

Be maaki kadi:Debba leptiraama ullundu ndu o soknoo haa ndu maayi, o naatnaa yiite, sabu o^o amminaani ndu o yarnaani ndu, o sokndu o accaani ndu ndu ^oaamoyi kuule leydi.Sahiih Bukhaari 3482.

dum ko lordo ullundu, hono lordo yimbe noon wa*ta, ittaama e Ibnu umar o wii: Nulaa^o wonii e dow minbar O noddi sawtu toow^o, O maaki:Eehey mon jebbiliriibe demde be iimaan yottaaki e berde mum en wotee loree juulbe wotee ngaybineebe wotee ndewindee awraaji mum en, sabu kala dewindiido awra musid^o makko, Alla rewindoo awra makko, mbo Alla rewindii awra makko O hoyna mbo hay si o woni e nder hirke makko, o wii: Ibnu Umar ndarii faade e suudu wolla faade Kaaba o wii: Ndaw ko teddu^o ndaw ko hurum ma mawni, kono ko ned^o bur ma hurma ka Alla.Ko Tirmijii yaltani mbo (2032) e Ibnu Habbaan(5763)Be maaki kadi:« kala on gomdindo Alla e ,jalaande Sakkitiinde nden, woto o lorlu koddiijo makko, Kala on gomdindo Alla e ,jalaande Sakkitiinde nden, yo o teddin koddiijo makko . Kala on gomdindo Alla e ,jalaande Sakkitiinde nden, yo haal ko moyyⁱ wollo o sukko ».Sahiih Bukhaari 6018.

Ittaama e Abuu Hurayrata ummaade e Annabi yo jam e kisa won e mum maaki: Mbela hodon nganndi pellisaado? be mbii pellisaado e amen woni mbo alah mbuudu alah kaake. O maaki: pellet woni pellisaado e lenyolam ko gaodoowo^o ande darnga koorko e juulde e askal, o ara hombo yenni o, hombo tukki o, hombo naami jawdi o, o jod^odinee oya yoftoo e moyyⁱ makko, si moyyⁱ makko ngasii ko adii nde yobata ko fawii mbo ko e goopi, goopi mabbe nanng e mbeddee e dow makko, refti o werlee e yiite.Ko muslim yaltani mbo(2581) e Tirmijiiyyu (2418) e Ahmad (8029) ko

kanko konngol woodani.Nulaadfo Alla maaki:Catal lekki woniino e laawol hongal lorla yimbe, gorko gooto itti ngal, o naatna aljanna.Bukaari yaltanii mbo(652) e maana mammba, e muslim(1914) ko wa*i noon e Ibnu Maaja (3682) e Ahmad (10432)konngol ngol woodaniibe, ittude ko lorata e laawol na naatna aljanna, hono njirudfa loroowo yimbe bonno nguurdam mum en.?

37. Islaam arii reende hakkille, mbo harmini kala ko bonnata mbo hono yarde dolo, Islaam bamtii daraja hakkille, mbo wafi mbo yoworde pawe de Alla fawata aade, mbo rimdini mbo e tonngi ko yaadaani e hakkille e sanamuuji. Islaam alah sirruuji ma aawooje keeraniide hinnde gaa e wonnde, kala sariyaaji hembo na hawri e hakkille celludfo te hodi njaadi e nuudal e nyeenyal.

Islaam arii reende kakkille mbo banti tolnde hembo, Alla daali:

﴿... إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]

{ Pellet nedfo ko naamnittefo nande e jiide e bernde d'ee fof ko o naamnittefo de.} [Al Israa:36].

Na waddii e nedfo nde o reenata hakkille makko,ko dum saabi harmineede sanngara e dorog,karmugol sanngara jantaama e tonngoode (34)na heewi e aayeeje alqurana gasrooje e konngol toowdo:

﴿...لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]

{ Yaama kakkilon } [Al Baqara 242]

Alla daali:

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 32]

{ Aduna wonaani si wonah ko fijrde e belaafe, ko galle laakara buri labaneede wonande hulbe Alla mate on kakkiltah. } [Al Anaam: 32].

Alla daali:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: 2]

{ Min tellanii mbo quraana arbiyanke ngam kakkilon. } [Yuusuf :2]

Alla holliti wonde peewal e ʿeeʿal naftorta dum tan ko jom hakkilleeji ko been mbiyetee ulul albaabai, Alla daali:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269]

{ Alla na totta neenyal Mbo haajani, kala tottaado ʿeenyal tottaama bural manngal siftortah dum si wonah joman en hakkillaaji. } [Al Baqara: 269]

Ko dum wadi Islaam wadi hakkille won de faworde ko fawe tee e nedfo, Nulaado yo his maaki:Kudol bantaama e tata: daaniida haa fina, suko haa hoydito e kaangaado haa hakkila.Bukaari o yowitiri mbo e tafngo fellitde ko adii hadiis (5269) O yaltani mbo hombo jokka e Abuu Daawuud (4402) ko kamko woodani lafju o, e Tirmijyyu (1423) e Nisaa*ii nde (ASUNANUL KUBRA) (7346) e Ahmad (956) e luural setta, e Ibnu Maaja.na tonnga.Rimfdini mbo e tonngi jibuyaaji e sanamuuji, Alla daali hombo habra fiyakuuji leyYi nanngitinoodi e jibuyaaji e salaade goongo gardudo ka Alla:

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ

آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: 23]

{ Ko hono noon Min nelaani e wura e jeertinoowo si wonah wiya neemiibe wuro ngo, pellet min tawii baabiraabe e dental ko batte mum en min ʿeemtinta } [Ajjukhrufi: 23].

Alla daali hombo habra gaa e Annabi Ibraahiim yo kisal won e Makko:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَائِلُ اللَّيْتِيَأْتُنَّكُمْ لَهَا عَلَيْكُمْ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا

عَبِيدِينَ﴾ [الأنبياء: 52-53]

{Holko woni dii nanndinaadi di uufnani don. (52) be mbi min tawii baabiraabe amen na ndewadi (53)} [Al Anbiyaa: 52-53]

Islaam ari yamiri yimbe accude rewde sanamuuji, e accude jibuyaaji donaaadi e baabiraabe e taaniraabe, mbo yamiri rewde laawol Nulaabe yo jam

kisal won e dow mum en. Islaam alah^o aawooje keerinaade hinnde gaa e wonde. Aliyyu Ibnu Abii Taalib biy baaba mum Nulaado e jom galle biy Nulaado Faatima: Mbela won ko Nulaado heertirani on e huunde? O wii Nulaado heerinaani amen huunde nde huftidinaani yimbe fof tawi wonah ko woni e wana jaasi am ki: O yaltini heen derawol na winnda heen Alla hudii kirsirdo ko wonah Alla gujudo manaar leydi Alla hudii kuddo jipnaado makko Alla hudii mooldo pepintoodo e diine ko alah heen. Sahiih Muslim 1978. Denndaangal^o awooje islaam e sariyaaji mum na yaadi e hakkille e nuundal e^o ee^oal..

38. Diineeji meere si sukkube mum faamaani ko woni e mum e be^oandiral ngal hakkillaaji cellubi calato, kono tan won e heyniibe diine pawu e hakkillaji sukkube e mum en wonde diine woni ko dow hakkille, alah do rewete haa hakkille faama diine. kona tan islaam teskii diine koko foyninta laawol hakkille, jom en diineeji meere na faala nde aade accata hakkille makko o rewa e mum en, islaam noon faala ko findinde hakkille, ngam goongaaji fiyakuuji ngannde e jaati.

Diineeji meere si sukkube mum faamaani ko woni e mum e be^oandiral ngal hakkillaaji cellubi calato, kono tan won e heyniibe diine pawu e hakkillaji sukkube mum en wonde diine woni ko e dow hakkille, alah do rewete haa hakkille faama diine. kona tan islaam teskii diine koko foyninta laawol hakkille, jom en diineeji meere na faala nde aade accata hakkille makko o rewa e mum en, islaam noon faala ko findinde hakkille, ngam goongaaji fiyakuuji ngannde e jaati, Alla daali:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا
نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: 52]

{ hono nih Mbahyii faade e ma yurmeende e yamiroore Amen, a annadaana ko woni binndol wolla iimaan kono Min mbaɗaniimo ma annoore emin peewna heen mbo Min kaaja e jiyaaɓe Amen, pellet ana feewna e laawo pootingol } [Assuuraa: 52].

Wahyu Alliiyanke na soomi burhaanuuji e hujjaaji peewnooji hakkille kisdɔ faade goongaaji dimbo faala anndude e goondinde mbo, Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 174]

{ Eehey mon yimbe arii e mon daliil ummaade e Joomi mon, Min tellinii faade e mon annoore banngunde } [Annisaa: 174]

Alla faalaa ko yo nedɗo wuur e peewal e ganndal e goonga, seytanuuji e walladiibe paala ko yo nedɗo hedda e niibe keefaraagu e majjere e wemmbeede, Alla daali:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاءُ لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ
مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ...﴾ [البقرة: 257]

{ Alla woni keeda been goondinbe O yaltinaɓe e niibe faade e annoore, been yeddube noon ko keeda mum en Taaguut duum woni kala rewete ko wonah Alla, hobe yaltinaɓe e annoore faade niibe. } [Al Baqara :257].

39. Islaam na mawnina ganndal cellungal na hirjina e witto ganndal ngal wondaani e belaaɗe, hombo noddo faade ndaarde e miijaade e nder ko*e men e winndere wonnde sara men, e njencudi ganndal cellundi luutandirtah e islaam.

Islaam na teddini ganndal cellungal, Alla daali:

﴿...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11]

{... Alla na banta darajaaji been goondinbe ummaade e mon, e been tottaabe ganndal, Alla na humpatii ko golloton ko. } [Al Mujaadala: 11]

Alla sinndindiri seede annube e seede Makko e ceedagol malaykaaji Makko ko buri mawnude ko seedete, Alla daali:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]

{ Alla seediima wonde pellet Alla alah si wonah kamko, e malaykaaji e jom en ganndal, Hombo darii e nuundal, deweteeɗo alah si wonah kamko, kamko woni poolɗo mbo fooletaake eeɗuɗo } [Aali Imraan: 18.]

Ko nih feeɗrata tolnde jom en ganndal nder islaam, Alla yamiraani annabi Makko Muhamed yo jam e kisal ngon e makko ɗabɓuude beydaneede huunde si wonah ganndal, Alla dali:

﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]

{ Maaku joom am beydam ganndal. } [Taahaa: 114],

Be maaki kadi:Kala naatɗo e laawol hombo ɗabɓa heen ganndal, Alla newna mbo laawol faade aljanna, pellet malaykaaji na lelna bibje majji weleede ɗabɓoowo ganndal, ɗabɓoowo ganndal kala ko woni e kammuuji e leydi na torono ɗum yaafuya haa e liɗɗi nder ndiyam, bural gannda e dow dewoowa ko hono no lewru wa**i* e denndaangal koode, pellet annube ngoni ronoobe annabaabe, pellet annabaabe ndonnatah diinaar wonah mbuudu, kono be ndonnata ko ganndal, mbo da'i ganndal danyii geɗal keewngal.Ko Abuu Daawuud yaltani mbo(3641) e Tirmijiyu(2682) e Ibnu Maaja (223) ko kanko jeyi ngol konngol, e Ahmad (21715).Islaam na hirjina e witto gannal teeldunga e belaade, hombo nodda faade e ndaarde e miijaade e nder pittaali men e nder ndee winndere sara men Alla daali:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53]

{ Ma Min kollube kaawisaaji Amen e jookli e nder ko*e mum en haa fee'ana be ko kanko woni goonga tigi, mbela yonaani Joom ma ko kamko woni ceediido e kala huunde. } [Fussilat :53]

Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

{ Mbele be ndaaraani nguu laamu teddungu nder kammuuji e leydi e ko Alla tagi e kala huunde, na hasoo nde lajal mum en badato honde yeewtere caggal dum be ngoondinta. } [Al Aaraaf: 185]

Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: 9]

{ Mbela be njahaani e nder leydi be ndaara hono batte been adiiɓe be, ko kambe burnoobe sattude doole e batte be mbattini e leydi be nguurni ndi ko buri kobe nguurni ndi ko, Nulaabe mum en ngaddaniɓe banngudi, Alla wonaana toonyoowo be kono ko kambe too'ata pittaali maɓɓ } [Arruum : 9]

E nje'cudi ganndal cellundi ndi luutandiraani e islaam,ma en njnta heen yeru gooto mbo quraana fenciti fiyaaku mum ko adii duubi ujunere, ganndal kesal anndi. dum ko sakkitii ko,njenycudi ganndal ari na hawri e ko ari ko e quraana, duum woni tagde liiryel e nder reedu neene mum,Alla daali:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ هَسْنَا الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: 12-14]

{ Min tagii aade e cengalawal ummaade e loopal (12) Refti Min mbaɗi mbo hedɗere e' iibirde hubandiinde. (13) Refti Min tagi tobbere nde hedɗere Min mbatti hedɗere nde husre, Min tagi husre nde yi'al Min min muurdi yi'al ngal teewu refti Min puɗɗi tagoore wod nde, Alla barkanii burɗo labeede e

40. Alla jabatah barjatah golle si wonah e goondindo Alla o doftii Mbo o goondini Nulaa do makko, Alla jabatah e dewe Alla si wonah ko O sariyini ko, hono aade yeddirta Alla refti o joorto nde okkata mbo mbelnaari? Alla jabantah iimman hay gooto si wonah o goondin annabaade fof, o goondini wonde muhamadu ko nulaado.

Alla jabatah O barjatah golle ande laakara si wonah e goondindo Alla o doftii Mbo o goondini nulaabe Alla be fof, Alla daali:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا﴾ (18) ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ (19) [الإسراء: 19-18]

{ Kala faalado yaawnaneede Min njaawnana mbo ko Min muuyi ko heen,wonande mbo min muuyi refti min mbaɗana mbo jahannama hombo sumee heen hombo woni nyinyaado diiwaado e yurmeende Alla. (18) Kala paalaado laakara o gollanii mbo golle makko tawa hombo goondini been de yahdu mum en na yettaa (19)} [Al Israa: 18-19]

Alla daali:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ [الأنبياء: 94]

{ Kala golluɗo golle labaade hombo goonindi, oon yeddantaake yaadu makko, pellet ma Min mbinndan mbo de. } [Al Anbiya: 94].

Alla jabatah e dewe Alla si wonah ko O sariyini, Alla daali:

﴿...فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110]

{Kala joortiido hawrude e Joomi makko yo o gollu golle labaade woto o renndin dewal mum Alla e hay gooto } [AL Kahfi:110]

O holli wonde golle labetaake si wonah de Alla sariyini, te kadi jom majje wona labbindo de fii Alla te hombo goondini Alla e Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en, kono mbo golle mum wonah duum, Alla daali:

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23]

{ Min ngari e kobe ngolluno e golle, min mbaɗiɗe punndi(nduggu) caraandi } [Al Furqaan: 23].

Alla daali:

﴿رُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ﴿٢٤﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٢٥﴾ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٢٦﴾﴾ [الغاشية: 2-4]

{ E geece koyɗe nyande heen (2) Gollooje tampuɗe (3) Na sume e jaynge wulnge. (4) } [Al Gaasiya: 2-4]

Geece de na koyi nummorde e golle, kono de ngollatno ko aldah e peewal ummorngal ka Alla, Alla waɗi battane majje ko jaynge, sabu de ngollir ko Alla sariyinaani, kono de ndewi ko dewgol meere, be cukki e ko*e majjere deen cosatnoobe be diineeji meere, golle labaade jabaade ka Alla woni kawruɗe ko Nulaado addi ko hono neɗɗo yeddirta Alla o joortoo nde Alla yobata mbo ko labaa?Alla jabantah iimaan hay gooto si wonah o goondin Annabaabe fof o goondina nulal Muhamed, en kaaliina yogo e dallilaaji e duum e tonngoode (20) Alla daali:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِنَّكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: 285]

{ Nulaado goondinii ko tellinaa ko e mum ummaade Joom makko, fof en ngoondinii Alla e malaykaaji Mum e defte mum e Nulaabe Mum, Min ceerndatah hay gooto e Nulaabe Mum, be wii min nanii min doftiima hafran amen, Joomi amen ko e Maa woni weernde.} [Albaqara: 285]

Alla daali:

﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾ [النساء: 136]

{ Onon goondinbe ngoondinee Alla e Nulaabe Makko e deftere nde O tellini e Nulaado Makko e deftere telliinde ko adii, kala jedduɗo Alla e malaykaaji Mum e defte Mum e Nulaabe Mum e alawma cakkitiido o majjii majjer

wodfunde } [Annis: 136].

Alla daali:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]

{Tuma nde Alla nanngi aadi e Annabaabe nd ngaddan Mi mon deftere e ̣ee'al, refti ari e mon Nulaado goondindo ko ngondudon ko, ma on ngoondin dum mballon mbo, o wii mbela on qirriima aadi Am o e duum, be mbii min qirriima, O wii ceedee Miin mbedo seedadoo e mon.} { Aali Imraan: 81}.

41. Woni faandaare nule Alliyankooje konde: Islaam diine goongo o bamtata aade haa o wona maccudo Alla tigi, mbo rimfina mbo e maccungaagal rigi e jibuyaaji, islaam senintah aade en bamtabe dow darajaaji mum en, mbo wadataabe Allaaji.

Woni faandaare denndaangal nule Alliyankooje ko: nde diine goongo bamtata aade, o wona maccudo Alla tigi, islaam na rimfina aade e maccungaagu jawdi e jibuyaaji, Nulaado mo jam e kisal woni e makko maaki:Malkisaama maccudo diinaar e mbuudu e qadiifa e khamiisa, si o rokkaama o welto si rokkaaka o weltataako.Sahiih Bukhaari 6435.

Neddo peewdo wonatah lorkinaniido si wonah Alla, jawdi e koongu e palaas e leool fof wadataa mbo maccudo, e ngol tinndol na huncana janngoowo o, no yimbe mbaano ada ko nulal e hono be mbattini.Nde juulde adinoode pernoo faade Ecoppi, laamdo leydi ndi naamniide, oon woni Najaasi, o wii:Hombo woni o diine ceerndudo on e yimbe mon, te on naataani e diine am wolla diine mofte goo?Jaafar Ibnu Abii Taalib wii:EEhey ma laamdo min ngonno ko jaahiliyankoo- be, rewoobe sanamuuji, ̣ aamoobe jiiba, jinoobe tay'oobe endam, bonbe e hoddiibe, cemmbindo ̣ aama lohdo, min ngoni e duum haa Alla neli faade e amen nulaado ummmiido e amen

mbo min nganndi asko makko e goondugol makko e hoolaare makko, e burnaade mbo, o noddi amen faade e tawhiid Alla e rewde Mbo, e accude ko min ndewatno minen e baabiraae amen ko wonah Alla, ko wa*i na kaaxe e sanamuuji, O yamiri amen goondude e yeewtere e tottirde hoolaare e jokkude endam e labinde koddigal e accude ko harmi e diiyam, O hadi amen pankare e haalde fenaande e naamde jawdi alyatiime e tukkude deeniido, O yamiri min nde min ndewata Alla kanko tan, min mbaasa Mbo renndinde e hay huunde, o yamiri amen juulde e askal e koorko. o wii: O limtani mbo gefe islaam min goondani mbo min ndewi mbo ko o addi ko, min ndewi Alla, min mbaasi renndinde Mbo e huunde, min karmini ko o harmini e dow amen min ndakni ko o daknani amen; Ahmad yaltani mbo(1740) e luural setta, e Abuu Na*iim nder(HILYATUL AWLIYA) (1/115) na tonnga.Islaam hono no paamirtaa senintah aade en mbo toownabe dow daraja mum en mbo waddataabe Allaaji e reweteedi.Alla daali:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]

{“Maaku:”Ko onon yo yimbe Defte,aree e konngol fotayngol hakkunde amen e mo'on:wonnde en rewataa si wanaa Alla,en kafidataa Mo e huune wata yoga e me'en jogitor yogo Joomi-raabe ko woori Alla".Si be huccitii,wi'ee:"Seeditee wonnde menen ko men jebbiliibe".} [Aali Imraan: 64.]

Alla daali:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل

عمران: 80]

{O yamirtaa on jogitorgol Malaa'ikaabe ben e Annabaabe ben reweteebe. E O yamiray on keeferaaku, baawo nde laatinodon jebbiliibe?} {Aali Imraan: 80}.

Be maaki kadi:Wotee nguttee kam honono Nasaaraa en nguttiri Ibnu Maryama, Miin de ko Mi maccudo makko, mbi*ee maccudo Makko e Nulaado Makko.Sahiih Bukhaari 3445.

42. Alla sariyini tuubde ko duum woni: ruttaade neddo e Joom mum e accude bakkatuuji, islaam na yirbina ko adinoo mbo e bakkatuuji, tuubaabuya na itta ko adinoo dum e bakkatuuji, haajaraani qirraade bakkatuuji yeesa yimbe.

Alla sariyani tuubgol e islaam ko duum woni: ruttaade e Joom mum e accude goopi, Alla daali:

﴿...وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]

{Ndutte e Alla onon fof juulbe mbela joo maledon} [Annuur: 31].

Alla daali:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 104]

{ Mbele be nganndah Alla na jaba tuubaabuya e jiyaabe Makko, hombo nannga sadakaaji pellet Alla ko jaboowo tuubaabuya ko O jurmatoodo.} [Attawba: 104].

Alla daali:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25]

{Ko kamko woni jaboowo tuubaabuya e jiyaabe Makko hombo yaafoo bondi hombo anndi ko mbadaton ko} [Assuura: 25].

Be maaki kadi:Alla buri sattude weltaare e tuubgol jiyaado Makko goondindo e gorko gondo e leydi kalkoori hombo wondi e daaba makko gondudo e ʿaamdu e njaram makko,o daani o fini o tawi mbo yahii,o dabbi mbo haa domko hefti mbo,refiti o wii: mi ruttoto e nokku ngonnoo mi, mi daano haa mi maaya,o fawi hoore mum e seemde makko ngam o maaya,o fini o tawi daaba mum doon hombo wondi e njooba e ʿaamdu e njaram makko,ko Alla buri sattude weltaare e maccudo goondindo e oon gorko jitudu daaba mum o.Sahiih Muslim 2744.Islaam na yirbina bakkatuuji

gadiidfi mbo, tuubuubuya na momta bakkatuuji gadiidfi, Alla daali:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: 38]

{Maakan ben yeddube: si be haftike; be haforante ko yawti. Si be ruttiima, haray gomdii laawol adinoobe ben yawtii.} [Anfaal: 38]

Alla noddi nasaaraa yobe tuub, O daali:

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: 74]

{Mbele be nduttataako e Alla, be dabba e Makko yaafeede, Alla ko jaafatoofo jurmotoofo} [Al Maa*ida : 74].

Islaam reerdini denndaangal woopbe e bakkodinbe nde be tuubata, Alla daali:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53]

{Maaku eehey mon jiyaabe Am fantinbe e dow ko*e mum en, wotee pibtee yurmeende Alla, pellet Alla na yaaf denndaangal bakkatuuji, ko Kanko woni jaafatoofo jurmotoofo..} [Ajjumur: 53].

Nde Amru Ibnul Aas faalaa naatde islaam, o huli nde o waasat yaafeede bakkatuuji mum di o golli ko adii islaam, Amru wii hombo haalana men ndee darnde:Nde Alla werlii e bernde am islaam o wii: Ngarmi e annabi yo o his ngam O soodandira e am, O werti junngo makko faade e am mbii mi: Mi soondandirtah e ma haa^o aafaadaa mi ko mbaadmi ko e bakkat, o wii: Nulaad maaki : Aan Umar mate a anndah fergo na momta bakkatuuji gadiidfi fergo ngo, Aan Umar mate a anndah wonde fergo na momta bakkatuuji gadiidfi ngo.Ko muslim yatani bmo(121) hombo juutna hono noon, e Ahmadu (17827).

43. E nder islaam jotondiral hakkunde aade e Joom makko alah heedo, a hatajinaani nde gooto wonata hakkunde ma e Joome, islaam na hada nde mbadaten aade deweteedo wollo renndube e Alla e Alliyankeewal Makkoe he ma ko O heeranii ko e reweede.

E islaam haajaraaka nde aade qirratoo goopi makko e yeese aade, e nder islaam jotondiral hakkunde aade e Joom makko alah heeda, hatajinaaka e goddo ngam wona hakkunde ma e joom ma, ko hono no yawtiri e tonngoode (36) Alla noddii denndaangal yimbe ndebe nduttotoo e Makko, O hadi yimbe nde nde nanngirta malaykaaji wolla annabaabe wonde hakkunde Alla e e jiyaabe Makko, O daali:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: 80)

{O yamirtaa on jogitorgol Malaa'ikaabe ben e Annabaabe ben reweteebe. E O yamiray on keeferaaku, baawo nde laatinodon jebbiliibe?} {Aali Imraan: 80}.

Islaam na hada nde aade nanngirtee Alla wolla renndude e Alla e jeyal Makko e Alliyankeewal Mum, Alla daali:

﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: 31)

{Be jogitike cernoobe mabbe e ruudiibe mabbe reweteebe ko woori Alla, e Mema-sella gefal Maryama. Be yamiraaka si wonaa rewugol reweteedo gooto. Reweteedo alaa si wonaa Kanko. Senayee woodanii Mo e kon ko be sirkaa ko.} [Attawba: 31]

Alla yeddii heeferbe kobe jogittoo ko jokkorde hakkunde mabbe e Makko, Alla daali:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾
[الزمر: 3]

{Ko noon de woodanii Alla diine laabtuɗo, been jaggirbe tanah Makko waliyaabe min ndewataabe si wonah yobe badin amen malal pellet Alla ko ɗaawoowo hakkunde mum ennder koɓe luutraatnoo ko, pellet Alla feewnatah kala gondo penoowo keefeero..} [Ajjumur: 3]

Alla holliri wonde wasaniyankooɓe -jaahilii en- na njogotono jokkorɗe hakkunde mum en Alla ɓe mbi*a: been ɓadnaɓe Alla.Si Alla hadii aade en nde nanngirta Annabaabe e malaykaaji jokkorɓe hakkunde Makko e jiyaabe Makko, tanah mum en ɓuri waasde haandude wonde jokkorɗe hakkunde Alla jiyaabe Makko, Annabaabe e Nulaabe na yaawnoo ngam badaade Alla, Alla daali na habra alhaali Annabaabe e Nulaabe:

﴿...إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَ نَارَ عَذَابٍ وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَدِيعِينَ ﴿٩٠﴾﴾ [الأنبياء: 90]

{Pellet hobe njaawnatonoo e moyyi hobe noddatonoo Amen reerɗude e kulol ɓe ngonino hulɓe Alla} [Al anbiyaa:90].

Alla daali:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا...﴾ [الإسراء: 57]

{Ko been ngoni noddooɓe ɗabbooɓe faade e Joomi mum en jokkorgal hombo e mum en ɓuri badaade homɓe joortoo yurmeende makko, hombo hula lepte makko, pellet lepte makko ɗe ko deentaade..} [Al Israa: 57]

been ɓe noddoton ko wonah Alla - e annabaabe e moyyuɓe - been hobe ɓallooro faade Alla hobe njoortoo yurmeende makko, hobe kula lepte makko, ko hono ɓe noddirtee ko wonah Alla.

44. E sakket ngal nulal en ciftarat wonde aade en e seertude jamanuuji mum en e yimbe mum en e leyde wollo boom e rennda aade en fof na seerti miijooji e paandale ka neesu e ka golle, na haajora e peewnoowo tinndinoowo e njuubbudi ndenndinatndi e laamu deenoowu mbo, Nulabe teddube be noon ndoondinoo ngaal donngal ummorde e wahyu ka joomiraawo, be peewna aade en e laawo peewal e fooccaare, be ndenndinabe e sariya Alla, be aawira hakkunde mum en e goonga fiyakuuji mum en poocco fotde nobe nootari Nulaabe e badaade yonto mum en e nele Alliyankooje, O timminiri nele e nelal Muhamed yo jam e kisal won e mum, O winndi e maggal heddaade, O wadi ngal peewal aade en e annoore yottinatnde e Alla.

E sakket ngal nulal en ciftarat wonde aade en e seertude jamanuuji mum en e yimbe mum en e leydi wollo boom e rennda aade en fof na seerti miijooji e paandale ka neesu e ka golle, na haajora e peewnoowo tinndinoowo e njuubbudi ndenndinatndi e laamu deenoowo mbo, Nulabe teddube be noon ndoondinoo ngaal donngal ummorde e wahyu ka joomiraawo, be peewna aade en e laawo peewal e fooccaare, be ndenndinabe e sariya Alla, be naawira hakkunde mum en e goonga fiyakuuji mum en poocco fotde nobe nootari Nulaabe e badaade yonto mum en e nele Alliyankooje, O timminiri nele e nelal Muhamed yo jam e kisal won e mum, O winndi e maggal heddaade, O wadi ngal peewal aade en e annoore yottinatnde e Alla.

45. Sabu duum noddumaami aan nebbe nde ndarantafa Alla ndarnde goondunde boliinde ̣ eemtinde e aada, anndu aan caggal maayde ma a rutta faade e Joom ma,ndaar hoore ma e jookli hedde ma, jebbila kisa aduna ma e laakara ma,si a faalaama naatde islaam alah ko fawii e ma si wonah seedaade alah deweteedo e goongo si wonah Alla e Muhamed ko Nulaado, e nde kisataa kala kala ko rewetee si wonah Alla, goondinen ma Alla yaltin wonbe to genaale, goondinaa hasboore e njobdi ko goongo,si a seediima dii seedeeji a wontii juuldo,oon tuma noon fawiiwo ma nde ndewataa Allano sariya ardiri nih hono juulde,askal,koorko e hajju si ana hattani.

Ko dum wadi mbeda noddu ma aan aade nde ndarotafa sabu Alla accaa ̣ eemtinde e aada, hono no Alla noddir ma, O daali:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرْدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ: 46]

{Maaku pellet mi waajoto mon e gootel nde ndaranatodon Alla dido e gooto gooto refti miiccadon,kaadi ngalah e gondiijo mon hee,ko O jeertinoowo mon tan na e yeesa mum lepte cattude. } [Sabaa: 46].

Anndu aan ko a ruttto e Joom ma, Alla daali:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَأُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾ [النجم: 39-42]

{ Aade alah si wonah ko yahani (39) Yaama yahdu mum ndu yi*ee (40) refti o yobee mbo njobdi burndi timmude (41) Ko faade Joom ma woni haattirde (42) [Annajmi :39-42]

Nde ndaarata e hoore ma e jookli sera ma, Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

{ Mbela be ndaaraani nguu laamu teddungu nder kammuuji e leydi e ko Alla

tagi e kala huunde, na hasoo nde lajal mum en badato honde yeewtere caggal dum be ngoondinta.] [Al Aaraaf: 185].

Jebbila maleda aduna ma e laakara ma, si a faalaama naatde e Islaam,alah ko fawii e maa si wonah seedaade deweteedo alah si wonah Alla gooto, Muhamed yo jam e kisal won e mum ko Nulaado Alla tigi.Tumo nde Nulaado nulnoo Mu*aaj faade Yaman ngam o nodda faade e Islaam,o maaki: Pellet ma a ar e yimbe joman en defte, noddube faade e seedaade alah deweteedo e ngoonga si wonah Alla, Miin komi Nulaado Alla tigi, sibe doftiimo ma e duum anndibe farlaama e mum en juuldeele joy kala alawma e kala jemma, sibe doftiima ma e duum anndibe Alla fawii e mum en askal ummaade e jawle mum en ngal nanng e aldube mabbe tottee waasbe, sibe doftiimo ma e duum reento jawle mum en burde teddude, reento noddugol toonyaado sabu heedo alah hakkunde nduun noddaandu e Alla.Sahiih Muslim 19.

Nde kisataa e kala ko rewetee ko wonah Alla, hisde e kala ko rewetee ko wonah Alla, woni laawol Annabi Ibraahiima peewngol, Alla daali:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ...﴾ [الممتحنة: 4]

{ Wonanii on e Ibraahiima eemtanirgal labangal e bee be o wondi tumo ndebe wii yimbe mum en pellet min kisii e mon e koon ko ndewaton ko wonah Alla,min njeddii mon,gaandiral banngii hakkunde amen e mon pooma haa ngoondinon Alla kanko tan } [Al Mumtahina: 4].

Goondinde Alla umminat wonbe nder baamuule, Alla daali:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّوَانَهُ وَيُحْيِي الْمَوْتُوَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾﴾ [الحج: 6-7]

{ Sabu ko Alla woni goongo,pellet ko Kanko woni guurtinoowo maaybe, ko Kanko woni kattando kala huunde (6) Pellet darngo koko arata sikke alah heen, pellet Alla umminat wonbe e genaale. (7) } [Al Hajji: 6-7]

Hasboore e njobdi ko goono, Alla daali:

﴿وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الجاثية: 22]

{Alla tagiri kammuuji e leydi goongo e haa yobee kala fittaandu ko ndu faggitii ko, kambe be too^oetaake.} [Al Jaasiya: 22]

Si a seediima ndu seedanfaagu ngonaa juuldo, fawama e ma rewruude Alla ko O sar*ini ko e juulde, askal koorko e hajju wonande baawdo .

Tummbitere e taariik 19-11-1441.

ko dr Muhamed Abdu Sahiim winndi nde.

Porofisoor fibnde to banng'e wittooji Islaam (ko adii)

Dudal Jaabi haattirde Uniwersite Malik Sa*uud.

Riyad laamaandi Arabi Sa*uudi.



ISBN:978-603-8412-74-9



Ff180